



# تذکیرالانسان بعد راؤہ الشیطان

مؤلف  
عبدالهادی بن حسن وہبی

ترجمہ  
المجالیات بالملک

اردو 0301230

لئے تعاونی پرائی ڈھنڈے دعوت و ارشاد سلی  
ٹلفون: ۰۳۱۰۶۱۵ فیکس: ۰۳۱۱۲۳۳۱۱ ص ب: ۰۳۱۹ اریاض: ۰۳۱۸

تذكير الإنسان بعداوة الشيطان

مؤلف

عبدالهادى بن حسن وهبى

مترجم

ابوشعيب عبد الكريم عبد السلام المدنى

نظر ثانى

آفتاب عالم محمد انس المدنى

طبع ونشر:

مكتب تعاونى برائى دعوت وارشاد سلى - رياض

٠١/٢٣١٢٣٣٨٨-٢٣١٠٦١٥ : فليكس

الـ ٢ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلفي، ١٤٢٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وهي ، عبد الهادي حسن

تذكير الإنسان بعداوة الشيطان /

عبد الهادي حسن وهي - الرياض، ١٤٢٨

١٤٤ ص ١٢٤ × ١٧ سم

ردمك: ٩ - ٢ - ٩٨٠٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

(الكتاب باللغة الأردية)

١ - الأدعية والأوراد ٢ - الشياطين والجان أ - العنوان

١٤٢٨/٤٥١٤ ديوبي ٢١٢,٣٩

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٤٥١٤

ردمك: ٩ - ٢ - ٩٨٠٨ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، رسول اللہ ﷺ پر اور آپ کی خاندان نیز تمام صحابہؐ کرام پر اور جنہوں نے آپ کی نصرت و حمایت کی ان سب پر اللہ تعالیٰ رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد:

شیخ عبد الہادی بن وہبی کی لاکن تحسین کتاب جس کا نام ”شیطان کی انسان دشمنی...“ ہے کامیں نے مطالعہ کیا ”اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک کام کی توفیق ارزانی بخشے اور ان کی کوششوں کو بابرکت بنائے“ تو میں نے دیکھا کہ یہ کتاب مذکورہ باب میں نفع بخش اور مطالعہ کرنے والوں کے لئے سودمند ہے۔ شیطان کی انسان دشمنی، اس کے عظیم شر، عظیم آفت کی کچھ تفصیل، اس سے بچنے کے وسائل اس کے مکروشر سے محفوظ ہونے کے طریقے ”اللہ تعالیٰ

شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے اور شیطانی خطرات، نیز اس کے وساوس سے ہمیں بچائے، انتہائی مفید وضاحت، شستہ اسلوب، بہترین ترتیب کے ساتھ مختصر طور پر بیان کی لڑیوں میں پرو دئے گئے ہیں۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کے مؤلف کو ان کی اس بار آور کوشش کا نیک صلہ عنایت فرمائے، رسالہ کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے، بلاشبہ اللہ عز و جل بہتر مسول ہے، اور اسی کی ذات سے خیر کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے نبی جناب محمد ﷺ کی ذات مطہرہ پر، آپ کے کنبہ، قبیلہ اور جملہ صحابہ کرام پر۔

عبد الرزاق بن عبد الحسن البدر

۲۷/۳/۱۴۲۵ھ

### مقدمہ

بلاشبہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، ہم اس کی حمد و شنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت کے طلب گار ہیں، ہم اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لاسکتا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں

حمد و صلاۃ کے بعد:

یقیناً سب سے بھی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جنہیں نئے سرے سے ایجاد کیا گیا ہوا اور ”دین میں“ نئے سرے سے ایجاد کردہ

چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایسے دشمن کے ذریعہ آزمائش میں بٹلا کیا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ساتھی جو اس سے غافل ہو کر نیند کا مزہ نہیں لیتا، وہ اور اس کا پورا کنبہ انسان کو دیکھتا ہے مگر انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، ہر صورت میں اس نے انسان دشمنی کے لئے کمرکس لیا ہے، مطلوبہ چیز کی طرف یجائے کے لئے مکر و فریب کی کسی بھی تدبیر کو فروگز اشت نہیں کرتا تا وقٹیکہ اس کا مقصود حاصل نہ ہو جائے، اور اس کے لئے وہ اپنے بھائیوں یعنی وہ شیاطین جو جنوں کی نسل سے ہیں اور ان کے علاوہ ان شیاطین سے مدد حاصل کرتا ہے جو نسل انسانی سے ہیں، اس نے پھندالگا کر فسادات و برائیاں منتشر کر دی ہیں اور اس کے ارد گرد شکاریوں کے جال بچھا کر شکاریوں کو الٹ

کر دیا ہے اور اپنے متعاونین سے یوں مخاطب ہوتا ہے خبردار! اپنے اور اپنے باپ کے دشمن سے ہوشیار رہنا وہ تم سے نقیح نہ جائیں، ان کے نصیب میں جنت اور تمہارے نصیب میں دوزخ؟ ان کے حصے میں رحمت اور تمہارے نصیب میں لعنت؟ جب کہ تم اچھی طرح سے میرے اور اپنے اوپر بیتی ہوئی رسوائی، لعنت، اور اللہ کی رحمت سے دوری کے لمحات کو بخوبی جانتے ہو، اور جب کہ ہم جنت میں ان نیک لوگوں کی رفاقت سے محروم ہو گئے تو تمہاری حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہئے کہ اس مصیبت میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں۔

اللہ عزوجل نے ہمارے دشمن کے ان پروپیگنڈوں سے ہمیں آگاہ کیا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کے لئے سامان مہیا کریں اور اس کے خلاف ایک ٹیم بنائیں، [الداء والدواء] (ص ۱۳۸-۱۳۹) طبع دار ابن الجوزی [.]

اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس و آدم کا قصہ اپنی کتاب کے اندر بکثرت

ذکر کیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔  
 اور جب کہ لوگ اپنے ازلی دشمن سے ان دونوں غافل ہو چکے  
 ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطانی عداوت کی یاد دہانی، اور اس سے  
 جنگ کرنے پر ابھارنے کے لئے اس بحث کے جمع کرنے کی توفیق  
 عنایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ وہ  
 سب سے پہلے مجھے اس بحث سے فائدہ پہنچائے، اور ان مسلمانوں  
 کو فائدہ پہنچائے جنہیں اس بحث کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو۔  
 اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ اس رسالہ کو شرف قبولیت سے  
 نوازے یقیناً وہ سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

مغفرت الہی کا طالب

عبدالہادی بن حسن وہبی

ص.ب: ۶۰۹۳/۱۳ اشوران - بیروت - لبنان.

فون نمبر: ۸۷۷۹۱۰۵۱-۰۳/۱۰۵۱-۷۹۱۰۵۱

### تمہید

## شیطان کی برائیوں سے آگاہی

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندے پر ایک ایسے دشمن کو مسلط کر دیا ہے جو اس کی ہلاکت کے طریقے، اور اس کے اندر برائیوں کے داخل کرنے کے اسباب سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس پر حریص بھی ہے، وہ بڑا فنا کار خبر رکھنے والا ہے، اور اسے کبھی ستی نہیں آتی، خواہ نیند کی حالت ہو یا بیداری کی، اسی وجہ سے اس دشمن، اور اس کے احوال، اس کے لشکر، اور اس کی تدبیروں کا ذکر قرآن کریم میں بکثرت موجود ہے کیونکہ لوگوں کو اپنے دشمن کی معرفت، اور اس سے جنگ و قتال کے طریقوں کا جانا ”اشد“ ضروری ہے۔

اللَّهُ أَعْزُّ وَجْلَ كَا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ﴾ [فاطر: ۶]

”یاد رکھو! شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لئے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب واصل جہنم ہو جائیں۔“ [سورہ فاطر (۲)]

شیطان کو دشمن بنانے کا حکم، اس سے لڑائی اور جنگ کے لئے اپنے آپ کو فارغ کرنے پر تنبیہ ہے کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو کبھی ست نہیں پڑتا اور نہ ہی لوگوں سے جنگ و جدال کرنے میں کثرت عدد کی بنارکوتا ہی بر تتا ہے۔ [زاد المعاو (۲/۳)].

اللہ تعالیٰ نے ہمارے جداً مجد حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان (لعین) کی عداوت کا قصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جس میں ہمارے لئے عبرت آمیز نصیحت ہے کہ کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکے میں رکھ کر انہیں شجرہ ممنوعہ کا پھل کھلانے، اپنے جھوٹ اور فریب کے ذریعہ انہیں جنت سے نکلوانے، اور اللہ عز وجل کے منع کردہ چیزوں کے ارتکاب اور اس

کے حکم کی مخالفت کروانے پر قادر ہوا، پھر اللہ عزوجل نے اس کے بعد فرمایا: ﴿يَأَيُّهَا آدَمَ لَا يَفْتَنُنِّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يُنَزِّعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهِمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم﴾ [الأعراف: ٢٧]

(اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتر وادیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو)۔

[سورۃ اعراف آیت نمبر (۲۷)]

”ایک دوسری جگہ“ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ﴿يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ إِذَا أَمْنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: ۲۱]

”ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی

قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا،”۔ [سورہ نور آیت نمبر (۲۱)]

یعنی شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں کو مت اپناو۔ [شرح السنة للبغوي (۲۰۲/۱۳)] کیونکہ لامحالہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے جو گناہ کبیرہ کے قبیل سے ہے، اور برائی کا حکم دیتا ہے جو صغیرہ گناہوں میں سے ہے، تو تمام گناہوں کا راز شیطان کے نقش قدم کی پیروی میں ہے خواہ وہ ممنوع اشیاء کے ارتکاب یا اوامر کے ترک کے قبیل سے ہوں کیونکہ یہ سب شیطانی را ہیں ہیں۔ [دیکھئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ بقرۃ (۳/۷-۸)]

مومن بندے پر جب یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے سامنے کاراستہ شیطانی ہے تو اسے تیزی کے ساتھ اپنا قدم روشن طریقے کی طرف پھیر کر تمام شیطانی اعمال سے مکمل طور پر دور ہو جانا چاہئے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ

آیت کریمہ پڑھی گئی: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاؤُ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ﴾ [المائدہ: ٩١]

”شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرادے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو بازار کھے سواب بھی بازاً جاؤ“

تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم باز آگئے، ہم باز آگئے۔ [ترمذی (۳۰۴۹) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۲۲۲۲) میں اسے صحیح قرار دیا ہے].

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوطًا الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ☆ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرۃ: ۱۶۸، ۱۶۹]

”شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس راستے کی اتباع سے روکا ہے جس کا شیطان حکم دیتا ہے اور وہ تمام کے تمام گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ انسانوں کو برے کام اور بڑے بڑے گناہ، مثلاً زنا کاری، شراب نوشی، قتل، بہتان، بخیلی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے افترا پر دازی کا حکم دیتا ہے۔

تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا ہے، یا جن صفتؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے اس کی نفی کرتا ہے جیسے وہ شخص جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے علوکی نفی کرتا ہے تو اس نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر

افتر اپردازی کی۔

اور جس شخص نے بلا دلیل یہ کہا کہ: فلاں کام کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور فلاں کو حرام، یا اس کا حکم دیا ہے اور اس سے روکا ہے تو اس نے بلا علم اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا۔

اور بغیر علم کے اللہ عز وجل کی ذات پر عظیم ترین بہتان تراشی میں سے قرآن کریم یا نبی اکرم ﷺ کی حدیث میں تاویل کرنا ہے مثلاً کوئی شخص حدیث نزول کی تاویل کرتے ہوئے یوں کہے کہ: اللہ تعالیٰ کی ذات نزول سے بالاتر ہے اور جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اس کا حکم، یا اس کی رحمت ہے یا اس کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا نزول مراد ہے۔

اور اللہ عز وجل پر بہتان لگانا یہ ان بڑے اور عام امور میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور شیطان (لعین) کے بڑے طریقوں میں سے ایک ہے جن کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ [تيسیر الکریم الرحمن (ص) ۸۱] طبع مؤسسة الرسالۃ۔

## ☆ کنجوی اور بخیلی ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ: وہ لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتا ہے اور خرچ کرنے سے روکتا ہے۔

اللَّهُ أَعْزُّ وَجْلًا كَا رِشَادٍ هُوَ الشَّيْطَنُ يَعْدُ كُمُ الْفَقْرَ  
وَيَا مُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْدُ كُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلَيْمٌ ﴿البقرة: ٢٦٨﴾ [البقرة: ٢٦٨].

”شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے“ - [سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۶۸]

مطلوب یہ ہے کہ: جب تم خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو شیطان تمہیں فقر اور محتاجی سے ڈراتا اور تمہیں بے حیائی یعنی بخیلی جوانہتائی میعوب شئی ہے اس کا حکم دیتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: بنو سلمہ!

تمہارا سردار کون ہے؟ تو ہم نے کہا: جد بن قیس مگر وہ بخیل آدمی ہے یہ سن کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بخیلی سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہے؟ - [امام بخاری نے "الادب المفرد" (۲۹۶) میں روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے "صحیح الادب المفرد" (۲۲۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

یقیناً شیطان کا محتاجی سے ڈرانا نہ تو انسان کی خیر خواہی کے جذبہ سے ہے اور نہ ہی اس پر ترس کھانے کے قبیل سے بلکہ اس کا محتاجی سے ڈرانا اور کنجوی کا حکم دینا محض اس لئے ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے بدگمان ہو جائے اور اللہ عز وجل کی رضا کے لئے خرچ کرنا بند کر دے جو کہ محرومی کا باعث ہے۔

لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خرچ کرنے کے نتیجہ میں اپنے بندہ کے گناہوں کی معافی، اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے باس طور کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس کے خرچ کرنے سے زیادہ بلکہ کئی گناہ زیادہ عطا فرمائے

گا، خواہ دنیا میں یاد نیا اور آخترت دونوں میں۔

تو یہ اللہ عزوجل کا وعدہ ہے اور وہ شیطان کا، تھی، اور کنجوس شخص کو دیکھنا چاہئے کہ کون سا وعدہ سچا ہے؟ اور ان دونوں میں سے کس کی طرف نفس سکون حاصل کرتا اور کس کی طرف دل مطمئن ہوتا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو فیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، وہ کشادہ علم والا ہے۔ [طريق الحجرتين (ص ۵۵۲)]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ۳۹]۔

”تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا (پورا پورا) بدله دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے“۔

تو اے لوگو! اللہ سے ڈرو، آنے والی زندگی کے سلسلہ میں رب ذوالجلال پر بھروسہ کرو، اور شیطان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں فقر و فاقہ

سے ڈراتا ہے۔

### ☆ وسوسہ اندازی ☆

شیطان کی برائیوں میں سے بندے کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے، وسوسہ شیطان کے عظیم ترین صفات میں سے ایک ہے جو شر کے اعتبار سے نہایت شدید، تاثیر کے اعتبار سے قوی ترین، اور باعتبار فساد عام ہے، بلکہ یوں کہہ سمجھئے کہ یہ ہر گناہ اور ہر پریشانی کی جڑ ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! (بس اوقات) ہم میں سے کسی کے جی میں کچھ اس قسم کے خیالات آتے ہیں - وہ کنایتہ کہہ رہے تھے - کہ اس شخص کا جل کر کوئلہ ہو جانا اس کلمہ کے زبان پر لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَكَيْدَهُ إِلٰى الْوُسُوْسَةِ

”اللّٰہ بہت بڑا ہے، اللّٰہ بہت بڑا ہے، اللّٰہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللّٰہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے شیطان کے مکر کو وسوسة میں تبدیل کر دیا“۔ [ابوداؤد (۵۱۱۲) علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھئے صحیح سنن ابی داؤد (۳۲۶۳)]۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: نبی ﷺ کے چند اصحاب آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ ﷺ سے اس سلسلہ میں دریافت کیا کہ: ہم اپنے جی میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں جنہیں ہم زبان پر لانا عظیم سمجھتے ہیں، تو آپ ﷺ نے پوچھا: کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ذٰكَ صَرِيْحُ الْإِيمَانِ“، ”یہ خالص ایمان ہے“۔ [مسلم (۱۳۲)]. اس عظیم ترین کراہت، اور دل سے اس کا دفعیہ، باوجود اس کے وساوس کا پایا جانا ایمان کی واضح دلیل ہے جس طرح مجاهد آدمی کے

پاس جب دشمن پہنچتا ہے تو وہ اس کا دفاع کرتا ہے تاوقتیکہ اس پر غالب نہ ہو جائے، تو یہ جہاد کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور صریح سے مراد خالص ”ایمان“ ہے مثل خالص دودھ کے۔ جب اس نے شیطانی وساوس کو ناپسند کیا، اور اس کا ازالہ کیا، تو گویا اس نے ایمان کو صاف سترہ کر لیا، پس اس کا ایمان خالص ہو گیا۔ اور تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے شیطان کے مکر کی غایت کو محض وسوسہ بنایا۔

### ☆ شیطان چور ہے ☆

شیطان کی برایوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ چور ہے۔ شیطان لوگوں کا مال چڑا لیتا ہے، پس ہر وہ کھانا، یا پانی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہواں میں شیطان کی چوری کا حصہ ہے۔

حدیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحْلِلُ الطَّعَامَ أَنَّ لَا يُدْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“

”جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو شیطان اسے اپنے لئے حلال کر لیتا ہے“ [مسلم (۲۰۱۷)]

### ☆ مسلمانوں کے درمیان فسادِ الناہم ☆

شیطان کی برا نیوں میں سے کسی بھی حیلے اور طریقے سے مسلمانوں کے درمیان فسادِ الناہم ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنा: ”إِنَّ الشَّيْطَنَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصْلُوْنَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ“

”جزیرہ عرب میں مسلمان شیطان کی عبادت کریں، اس بات سے تو وہ مایوس ہو چلا، مگر ایک دوسرے کے خلاف برا نیختہ کرنے میں“ [وہ کامیاب ہو گیا] [مسلم (۲۸۱۲)].

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنا لشکر“ ہر چہار جانب“

روانہ کر دیتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ معزز اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو نہایت شریر ہو، اس کا لشکری جب اسے خبر دیتا ہے کہ میں نے فلاں، فلاں کام کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ: تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ایک دوسرا لشکری آ کر عرض کرتا ہے کہ: میں مسلسل کوشش میں لگا رہا یہاں تک کہ میں نے فلاں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ابلیس اس بات پر خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے: (نَعَمْ أَنْتَ) تو نے عمدہ کار کر دگی کا مظاہرہ کیا ہے، [مسلم] (۲۸۱۳).

ابلیس کا قول ”نَعَمْ أَنْتَ“ یہ مدح اور تعریف کے لئے وضع کیا گیا ہے، ابلیس اس لشکری کے حیرت انگیز کار نامہ، اور مطلوبہ مقصد کے حصول پر خوش ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے۔

## ☆شیطان کی قربت اور دوستی☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ: بندہ جب ایسے کام کے لئے نکلتا ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوض و ناپسندیدہ ہے تو اس کا دشمن اس سے قریب ہو جاتا ہے، جس کی قربت اور دوستی میں فساد اور بد بخشنی کاراز مضمیر ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس دو جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دوسرا جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں، پس اگر وہ ایسے کام کے لئے نکلتا ہے جو اللہ عزوجل کے نزدیک پسندیدہ ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور گھر واپس ہونے تک مسلسل وہ فرشتہ کے جھنڈا تلے ہوتا ہے، اور اگر وہ ایسے کام کے لئے نکلتا ہے جو اللہ عزوجل کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر

اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور گھر واپس ہونے تک لگاتار وہ شیطان کے جھنڈ اتھے ہوتا ہے، [امام احمد نے مند (۳۲۳/۲) میں صحیح سند سے نقل کیا ہے۔]

تو اے میرے بھائی! اس چیز کے لئے تم حریص ہو جاؤ کہ تمہارا ”گھر سے“ نکلنا ایسے امور کے لئے ہو جو حق، منجانب اللہ ثابت شدہ، اور اس کی رضا مندی کے لئے ہو، یعنی طلب علم، صلح رحمی، مریض کی عیادت، مسلم کی زیارت، اور اس کی تکمیل حاجت، جنازہ میں شرکت، اور جماعت میں حاضری کے لئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گھائی سے ایک نوجوان نمودار ہوا، ہماری نگاہ جب اس شخص پر پڑی تو ہم نے اسے گھور کر دیکھا، اور ہم نے کہا: کاش یہ نوجوان اپنی جوانی، جوانی کے نشاطات، اور اپنی طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا! تو رسول اللہ ﷺ نے

ہماری گفتگوں کرا رشاد فرمایا: ”وَمَا سَيِّلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعْفَهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى مُكَاثِرًا فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَنِ“

”کیا قتل ہو جانا ہی محض اللہ کا راستہ ہے؟ جو شخص والدین کی خدمت میں کوشش رہتا ہے وہ اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لئے تگ و دو کرنے والا بھی اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کی پاک دامنی کے لئے سعی پیغم کرتا ہے وہ شخص بھی اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے، اور مال کی کثرت کے لئے جد و جہد کرنے والا شیطان کے راستہ میں ہوتا ہے،“ [اس حدیث کو بزار نے کشف الاستار (۱۸۷) میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء (۱۹۶-۱۹۷) میں ذکر کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے، دیکھئے سلسلہ صحیح (۲۲۳۲)]۔

☆ ہر حال میں انسان کے ساتھ لگے رہنے پر شیطان کا اصرار ☆  
 شیطان کی برائیوں میں سے ہر حال میں انسان کے ساتھ لگے  
 رہنا، ہر سمت اور ہر جانب سے اس کے سامنے آنا، اور ہر وقت  
 انسان کے پیچے پیچے چلنے پر اس کا مضبوط اصرار ہے۔  
 ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے  
 ارشاد فرمایا: ”شیطان اللہ تعالیٰ سے یوں مخاطب ہوا اے میرے  
 رب! تیری عزت کی قسم! میں لگاتا تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں  
 گا تاوقتیکہ ان کی رو جیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی، تو اللہ  
 تعالیٰ نے کہا: میری عزت و جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے  
 استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا“۔  
 [حاکم (۲۶۱/۲) اور محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع  
 (۱۶۵۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

## ☆ نومولود بچے کی کوکھ میں کچو کے لگانا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ: بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو شیطان اس نومولود کے سامنے آ کر غصہ، جلن، اور اس پرانی دشمنی کو سامنے رکھ کر جواس کے اور انسان کے بابا (آدم اور ابلیس) کے درمیان تھی، نیز اس نومولود کے ساتھ جنگ کے آغاز سے خبردار کرتے ہوئے اسے کچو کے لگاتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ

علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَنُ يَمْسُهُ حِينَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّ الشَّيْطَنِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرِيمَ وَابْنَهَا) وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ أَعِيدُهَا بِكَ وَذَرْيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ۳۶]، [بخاری (۲۵۲۸)]

”جو بھی بچہ جنم لیتا ہے شیطان اس کی پیدائش کے وقت اسے کچو کے لگاتا ہے، جس کی بنا پر بچہ چیختا اور چلاتا ہے سوائے مریم اور

ان کے بیٹے کے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو: ﴿وَإِنَّى  
أُعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ﴾ ”میں اسے اور  
اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں“ -

### ☆ خوفناک خواب دکھانا ☆

شیطان کی براستیوں میں سے ایک براٹی یہ ہے کہ وہ انسان کو رنج  
وغم میں مبتلا کرنے کی غرض سے بھیا نکل خواب دکھاتا ہے، اور مومن  
کی تکلیف سے بڑھ کر شیطان کے نزدیک کوئی شے محبوب نہیں  
ہے۔

عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد  
فرمایا: ”إِنَّ الرُّؤُوْيَا ثَلَاثٌ : مِنْهَا أَهَوِيْلٌ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْرُّ  
بِهَا ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهَا مَا يَهْمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ ، فَيَرَاهُ فِي  
مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً اَمِنَ النُّبُوْةَ“

”خواب تین قسم کے ہوتے ہیں: اس میں سے بعض شیطان کی

طرف سے ہول دل دلانے سے آتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ انسان کو غمگین کرے، اور بعض وہ ہیں جن کے بارے میں آدمی بیداری میں سوچتا ہے جسے وہ خواب میں دیکھتا ہے، اور بعض وہ ہیں جو نبوت کے چھیالیسویں حصہ میں سے ایک حصہ ہے، [ابن ماجہ (۳۹۰۷) علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے دیکھئے صحیح سنن ابن ماجہ (۳۱۵۵)]۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ: میرا سر کٹا ہوا ہے، آپ ﷺ یہ سن کر ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا: ”إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَنُ بِأَحَدٍ كُمْ فِيْ مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ“

”جب میں تم میں سے کسی کے ساتھ خواب کی حالت میں شیطان کھلواڑ کرے تو اسے چاہئے کہ اس خواب کو کسی سے

بیان نہ کرے) [مسلم (۲۲۶۸)].

## ☆ خیر کی چیزوں کا بھلوانا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک براہی یہ بھی ہے کہ: جن چیزوں میں بندے کے لئے خیر ہے اس کے بھلوانے پر وہ حریص ہے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو عادتیں ایسی ہیں جن کی طاقت کوئی شخص رکھ لے تو وہ جنت میں داخل ہو گا وہ دونوں آسان ہیں پر اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، پانچ وقت کی نمازیں جن کے بعد تم میں سے کوئی دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ، اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ زبان کے لحاظ سے ایک سو پچاس ہوئے اور میزان کے اعتبار سے پندرہ سو، اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہاتھ سے گردھ لگاتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کس

طرح یہ دونوں آسان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کسی کے سونے کی جگہ شیطان آتا ہے اور اسے ان اذکار کے پڑھنے سے پہلے سلا ویتا ہے اور اس کی نماز میں حاضر ہو کر اس کی ضرورت کی یاد دہانی کر دیتا ہے قبل اس کے کہ وہ ان اذکار کا ورود کرے۔“ [ابوداؤد (۵۰۶۵)] علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھئے صحیح سنن ابی داؤد (۳۲۳۳)۔

### ☆ نیت، قول، اور عمل میں خرابی پیدا کرنا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ: انسان کے کسی بھی کام کے ارادہ کرتے وقت وہ حاضر ہو جاتا ہے تاکہ اس کی نیت، قول، اور عمل کو خراب کر دے۔

جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ شیطان تمہارے ہر ”چھوٹے بڑے“ امور

میں دخل اندازی کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، لہذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہئے کہ لقمہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر کے کھالے، اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس دانے میں برکت ہے۔ [مسلم] (۲۰۳۳)

### ☆ راہ حق اور راہ نجات پر شیطان کا پھرہ ☆

شیطان کی برا نیوں میں سے یہ بھی ہے کہ: راہ حق اور راہ نجات جو جنت تک پہونچانے والے ہیں ہے ان میں "لگھات لگا کر" شیطان ٹھیک اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح شاہ راہ پر رہن بیٹھتے ہیں۔

اللَّهُ أَعْزُّ وَجْلُ كَا ارشاد ہے: ﴿لَا تَقْعُدْنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ تُمْ لَا تَنِهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ بَلَفْهِمْ وَعَنْ

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ☆

”میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گزارنہ پائیے گا۔“ [سورہ اعراف (۱۶، ۱۷)]۔

انسان جو بھی راستہ اختیار کرے شیطان کو اس پر گھات لگائے ہوئے پائے گا، اگر وہ فرمانبرداری کے لئے نکلے گا تو اس سے باز رکھنے، منع کرنے، دشوار کرنے، اور تاخیر کروانے کے لئے شیطان کو حاضر پائے گا، اور اگر وہ نافرمانی کے لئے نکلے تو شیطان اسے اپنے کندھے پر اٹھاتا پھرے گا، اس کی خدمت گزاری، اور اعانت و مدد کے لئے ہمہ وقت موجود رہے گا۔

سبرہ بن ابی فاکہہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ”شیطان ابن آدم کے تمام راستوں

پر بیٹھا ہے، اسلام کے راستہ پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا، اور اپنے باپ داداوں کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟ تو وہ اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستہ پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا گھر یا رچھوڑ کر ہجرت کا ارادہ رکھتا ہے؟ پس وہ شخص اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے، پھر شیطان جہاد کے راستہ بر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنے نفس اور مال کے ذریعہ جہاد کرے گا؟ تو قاتل کرے گا پس قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، اور لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر دیا جائے گا، تو وہ اس کی نافرمانی کر کے جہاد کے لئے نکل جاتا ہے۔ [نسائی (۳۱۳۶)۔ علامہ البانی نے اسے صحیح قردادیا ہے، و میکھنے صحیح سنن نسائی (۲۹۳۷)۔]

کتنے ایسے پختہ ارادہ کرنے والے ہیں جنہیں شیطان ٹال دیتا ہے، کتنے ایسے حضرات جو نیکی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں

انھیں روک دیتا ہے، وہ کاہلی کو محبوب بنا کر پیش کرتا ہے، عمل میں  
ثال مثول، اور معاملہ کو لمبی امیدوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔

جب جب کوئی کام بندے کے لئے زیادہ نفع بخش، اور اللہ کے  
نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا تو اسی اعتبار سے شیطان کی مخالفت بھی  
اس پر شدید ہوگی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد  
فرمایا: ”جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا  
ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب  
اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب  
اقامت ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر انسان اور اس کے دل کے  
درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے ”وسوسہ ڈالتا ہے“، فلاں کام  
یاد کر، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے تین رکعت نماز  
ادا کی یا چار رکعت، لہذا جب اسے تین یا چار رکعت کے سلسلہ میں

نسیان لاحق ہو جائے تو اسے سجدہ سہو کر لینا چاہئے۔” [بخاری (۳۸۹)، مسلم (۳۲۸۵، ۱۲۳۱، ۱۲۲۲، ۲۰۸)]

بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو اس پر غیرت آجائی ہے کیونکہ وہ بہت عظیم اور انتہائی نزدیکی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کیلئے سخت غصب، اور شدید ناگواری کا باعث ہے، کیونکہ وہ اس بات پر حریص اور اس کی مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر حالت نماز میں ان چیزوں کی یاد دہانی کرائے جن کے بارے میں نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس نے سوچا تک نہ تھا، بلکہ انسان بسا اوقات کسی چیز، یا ضرورت کو بھول کر اس سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، تو عین نماز کے وقت شیطان اسے یاد دلا دیتا ہے تاکہ اس کے دل کو ان چیزوں میں مشغول کر کے اللہ عزوجل سے غافل کر دے۔

اسی لئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز کی حالت میں توجہ

ہٹ جانے کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”**هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَنُ مِنْ صَلَاتِ الْعَبْدِ**“

” یہ شیطان کا جھپٹا مارنا ہے جسے وہ بندے کی نماز سے اڑایتا ہے،“ [بخاری (۳۲۹۱)، ۵۱] .

☆ جمائی لیتے وقت شیطان کا منہ کے اندر داخل ہو جانا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ: بندہ جمائی لیتے وقت اگر اپنا ہاتھ منہ پر نہیں رکھتا ہے تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”**إِذَا تَشَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمُسِّكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَنَ يَدْخُلُ**“

”جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اسے چاہئے کہ اپنا ہاتھ

اپنے منھ پر رو کے رکھے کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے،” [مسلم] (۲۹۹۵).

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الْتَّشَاؤْبُ مِنَ الشَّيْطَنِ، فَإِذَا تَنَاءَ بَأَحَدٍ كُمْ فَلَيْرُدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدٌ كُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَرِحَكَ الشَّيْطَنُ“ ”جمائی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اسے چاہئے کہ اپنی طاقت بھراں کا دفاع کرے کیونکہ جب کوئی (جمائی لیتے وقت) ہا کہتا ہے تو شیطان ہستا ہے۔“ - [بخاری] (۳۲۸۹، ۴۲۲۳، ۴۲۲۶).

### ☆ سر پر گردہ لگانا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ہے کہ: انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر گردہ لگادیتا ہے تاکہ نیکی کے کام مثلاً قیام، تلاوت، ذکر، اور مغفرت طلب کرنے سے انسان کو باز رکھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کسی آدمی کے سر کے پچھلے حصے میں اس کے سونے کے وقت شیطان تین گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ کی جگہ پر کہتا ہے: سو جارات بڑی لمبی ہے، پس جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، اور جب وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک اور ”تیسرا“ گرہ کھل جاتا ہے پھر وہ چستی اور نفس کی پا گیزگی کی حالت میں صبح کرتا ہے، ورنہ وہ کامی اور نفس کی خباثت کے ساتھ صبح کرتا ہے۔“ - [بخاری (۳۲۶۹، ۱۱۳۲) مسلم (۷۷۶)]

حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ: جس نے مذکورہ تین کام یعنی ذکر، وضو، اور نماز نہ ادا کی تو وہ ان لوگوں میں داخل ہو گا جو کامی اور نفس کی خباثت کے ساتھ صبح کرتے ہیں جن کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: نبی کریم ﷺ کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا جو رات سے لے کر صبح تک سوتارہ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ذَاكَ رَجُلٌ بَالَّشَيْطَنِ فِي أُذْنِيهِ“ اُوقَالَ: ”أُذْنِهِ“

(اس آدمی کے دونوں کانوں میں، یا فرمایا: اس کے کان میں شیطان نے پیشتاب کر دیا ہے) [بخاری (۱۱۲۳، ۳۲۸۰)، مسلم (۷۷۲)].

### ☆ شیطان کا انسان کے جسم میں خون کے مانند دوڑنا ☆

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الشَّيْطَنَ يَحْرِي مِنْ أَبْنِ آدَمَ مَحْرَى الدَّمِ“

” بلاشبہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے مانند دوڑتا ہے“ [بخاری (۲۰۳۸) مسلم (۲۱۷۵)].

شیطان کا انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنا اپنے ظاہر پر ہے، وہ انسان سے

ٹھیک اسی طرح الگ نہیں ہوتا جس طرح اس کا خون اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا، تو شدتِ اتصال اور عدمِ مفارقت میں دونوں مشترک ہوئے۔

### ☆ شیطان کا انسان کے نتھنے میں پھونک مارنا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ: جب بندہ گنگنا تاہے تو شیطان اس کے نتھنے میں پھونک مارتا ہے۔

سابب بن یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ: ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ کیا اس عورت کو تم جانتی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا: اے اللہ کے نبی! میں نہیں جانتی، تو آپ نے بتایا: یہ فلاں کی اولاد کی لوٹدی ہے، یہ سن کر اس لوٹدی نے گنگنا نا شروع کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان اس کے نتھنے میں پھونک مارہا ہے۔“ [احمد (۳/۲۲۹، ۲۲۹) ]

سندر صحیح ہے۔

## ☆ دین فطرت سے منحرف کرنا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی وہ ہے: جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں نے اپنے تمام بندوں کو دین فطرت ”دین اسلام“ پر پیدا کیا، بلاشبہ شیطان لوگوں کے پاس حاضر ہوا اور انھیں ان کے دین سے منحرف کر دیا، اور ان پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا جنھیں میں نے ان کے لئے حلال کر دیا ہے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ: وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری“۔ [مسلم (۲۸۶۵)]

یہ عظیم الشان اور نہایت اہم حدیث دو مقصود بالذات بڑے اصولوں پر مشتمل ہے:

- (۱) تہا اللہ عزوجل کی عبادت ہو جس کا کوئی شریک نہیں۔
- (۲) عبادت صرف اس طریقے کے مطابق ہو جسے اللہ تعالیٰ نے

مشروع قرار دیا، اسے پسند کیا اور اسکا حکم دیا ہے۔

یہ دونوں اصول اس مقصد کے اساس میں سے ہیں جس کی بنیاد پر مخلوق کی تخلیق وجود پذیر ہوئی، اور ان کے مقابل شرک و بد عات ہیں، تو مشرک اللہ عزوجل کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتا ہے، اور بدعتی ان چیزوں کے ذریعہ اللہ عزوجل کا تقرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے جس کا نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اسے مشروع قرار دیا اور نہ ہی اسے پسند کیا ہے۔ [شفاء العلیل (۸۲۳/۲)]

اور بدعت: حق کے خلاف اعتقاد رکھنے کی شکل میں ہو، یا اس چیز کی عبادت کی شکل میں جس کی اللہ عزوجل نے اجازت نہ دی ہو، ابلیس کے نزدیک گناہ سے بڑھ کر محبوب ہے کیونکہ معصیت کے ارتکاب پر توبہ کی توفیق مل سکتی ہے مگر بدعت کے ارتکاب پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔

اپلیس کے نزدیک بدععت معصیت سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ بدععت ایسی چیزوں کو دین سمجھ رہا ہے جسے نہ تو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے اور نہ اس کے رسول نے، بلکہ اس کا براعمل مزین کر دیا گیا ہے جسے وہ اچھا سمجھ رہا ہے، اور جب تک وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو نہیں کر سکتا۔ [مجموع الفتاویٰ (۹/۱۰)]۔

### ☆ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا ☆

شیطان کی برائیوں میں سے ایک برای یہ بھی ہے کہ: وہ بندے کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چلا کہ تمہاری سرز میں میں اس کی عبادت ہو گی، مگر وہ تم سے اس بات کو لے کر خوش ہے جسے تم حقیر سمجھتے ہو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: ”يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا“

”اے عائشہ! چھوٹے چھوٹے اعمال“ صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ان کا مَوَاحِذَہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا“ [ابن ماجہ (۳۲۲۳) علامہ البانی نے اسے صحیح قردا یا ہے دیکھئے صحیح سنن ابن ماجہ (۳۲۲۱)].

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے باز آ جاؤ، یہ اس قوم کے مانند ہے جنہوں نے کسی وادی کے اندر پڑا تو ڈالا، پھر اس قوم کا ایک فرد ایک لکڑی لے آیا، اور دوسرا فرد ایک دوسری لکڑی لے آیا یہاں تک کہ سبھوں نے اپنی روٹیاں پکالیں، یقینیں صغیرہ گناہوں کا جب مَوَاحِذَہ ہوگا تو یہ اس کے ارتکاب

کرنے والے شخص کو ہلاک کر دیں گی،] احمد (۲۲۹۱۶). امام احمد نے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ: قوم کا ہر فرد لکڑی کی ایک ٹھنپی لے آیا یہاں تک کہ انہوں نے عظیم ترین آگ روشن کیا پھر کھانا پکایا اور بھونا، ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ صغیرہ گناہوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے بوجھ تلے آ جاتا ہے تو یہ اسے ہلاکت کے گذھے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔

لکڑی کی صرف ایک ٹھنپی روٹی پکا سکتی ہے، اور نہ کھانا، لیکن جب ٹھنپیاں ایک دوسرے کے ساتھ مladی جائیں اور آگ روشن کی جائے تو زبردست آگ بھڑکائیں گی۔

صغریہ گناہوں کو حقیر سمجھنا یہ آگ کے اس شعلہ کے مانند ہے جسے خشک گھاس میں پھینک دیا جائے تو خوفناک قسم کی آگ پیدا کرتا ہے، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے: ”وَمَعْظَلُمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغِرٍ

الشَّرِّ“

”بھاری آگ چھوٹے چھوٹے شعلوں سے لگتی ہے،“ ابتداء میں  
نگاہیں ملتی ہیں پھر دل میں خیال آتا ہے اس کے بعد آدمی قدم آگے  
بڑھاتا ہے اور پھر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔“

ابو عبد الرحمن الجبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: اس شخص کی مثال  
جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے  
گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس کے  
سامنے درندہ آگیا اور وہ اس سے نجات حاصل کر لیا، پھر اس  
سے سانڈاونٹ ملا اور وہ اس سے نجات بچا کر نکل گیا، پھر اسے ایک  
چیزوٹی نے کاٹ کھایا اور اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا، پھر ایک اور  
چیزوٹی نے کامٹا یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے کئی چیزوٹیاں جمع  
ہو گئیں اور اسے زمین پر گرا دیا، اسی طرح وہ شخص بھی ہے جو کہ باز  
سے اجتناب کرتا ہے پر صغیرہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ [ابن

بطال کی شرح صحیح البخاری (۲۰۳/۱۰).]

ابن معزز رحمہ اللہ کہتے ہیں:

خَلُّ الدُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى  
چھوٹے، بڑے تمام گناہوں سے باز آ جا، یہی پر ہیز گاری ہے۔

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أُرْضِ الشَّوُكِ يَحْذِرُ مَا يَرَى  
اور اس شخص کے مانند ہو جا جو خاردار زمین میں دیکھ بھال کر قدم  
رکھتا ہے۔

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى  
چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر مت سمجھ، بلاشبہ کنکریوں سے مل کر  
ہی پہاڑ بنتے ہیں۔

ایک کنکری سے ٹیلہ بن سکتا ہے نہ پہاڑ لیکن کنکریاں جب  
زیادہ مقدار میں ہوں تو ٹیلہ بنتا ہے اور جب کنکریوں کا ڈھیر لگ  
جائے تو پہاڑ بن جاتا ہے۔

اسی طرح بندہ صغیرہ گناہوں میں غفلت بر تباہ ہے یہاں تک کہ گناہوں میں گھر جاتا ہے اور اس کی غلطیاں اس کا مکمل طور پر احاطہ کر لیتی ہیں پھر اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔

”جس نے اس مقام پر غور و فکر اور علمی بصیرت سے کام لیا اس نے اس ضرورت کی شدت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی عظمت کو جان لیا،“ [التبیان فی اقسام القرآن (ص ۳۰۱)] .

## الحسن الحسين

من

الشیطان الرجیم

شیطان مردود سے بچنے کا

محفوظ قلعہ

## ☆ پہلا قلعہ: اخلاص ☆

جب ابلیس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مخلص مومنوں کے سامنے اس کی دال نہیں گلے گی تو انہیں گمراہ کرنے اور ہلاکت میں ڈالنے کی جو شرط اس نے لگائی تھی انہیں اس سے مستثنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا قول نقل کیا ہے:

﴿قَالَ فَبِعِزْرِتِكَ لَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ۸۲، ۸۳]

ترجمہ: کہنے لگا پھر تو تیرے عزت کی قسم! میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، مجز تیرے ان بندوں کے جو چیزہ اور پسندیدہ ہوں۔  
[سورہ ص (۸۲، ۸۳)]

تو اخلاص ہی شیطان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا راستہ ہے، اہل اخلاص کے جملہ اعمال، ان کی باتیں، ان کا خرچ کرنا، اور ان کا روکنا، انکی محبت، اور ان کا بغض سب اللہ عز و جل کے لئے ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ أَسْتَكْمَلَ إِيمَانَ“

”جس نے اللہ کے لئے محبت کی، اور اسی کیلئے بعض رکھا، اللہ کے لئے خرچ کیا، اور اسی کے لئے منع کیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“ [ابوداؤد (۳۶۸۱) علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، دیکھئے صحیح سنن ابی داود (۳۹۱۵)]۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

عَزَفُوا الْقُلُوبَ عَنِ الشُّوَاغِلِ كُلُّهَا قَدْ فَرَغُوا هَا مِنْ سَوَى الرَّحْمَنِ  
”مخلص مسلمانوں“ نے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اپنا دل فارغ اور خالی کر لیا،

حَرَّكَتُهُمْ وَهُمُومُهُمْ وَعُزُومُهُمْ لِلَّهِ لَا لِلْخَلِقِ وَالشَّيْطَنِ  
ان کے حرکات، افکار اور ارادے اللہ عز و جل کے لئے ہیں نہ کہ مخلوق اور شیطان کے لئے۔

تو اہل اخلاص کا تمام معاملہ، خواہ ظاہری ہو یا باطنی اللہ عز و جل کی رضامندی کے لئے ہوتا ہے، وہ لوگوں سے اس کے عوض جزا اور شکر کے طلب گار نہیں ہوتے، ان سے جاہ، تعریف اور نہ ان کے دلوں میں جگہ بنانے کے خواہ شمند ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کی مذمت کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ یہ حضرات لوگوں کو مرد دلوں کے مانند سمجھتے ہیں جو ان کے لئے نہ توفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کے، موت و حیات پر ان کو قدرت ہے اور نہ قیامت کے دن مردوں کے زندہ کرنے پر۔

جان لوکہ: نفس پر سب سے گراں چیز شیطان کے شائیبہ سے اعمال کو بچا کر صرف اللہ عز و جل کے لئے خالص کرنا ہے، اور یہ دولت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ تھاتا سید الہی کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال ہو، بذات خود اللہ عز و جل نے اسکی حفاظت و حمایت کی ذمہ داری لے رکھی ہو، اور اس کے دل کی بینائی کو روشن

کر دیا ہو۔

## ☆ دوسرا قلعہ: قرآن کریم کی تلاوت ☆

ابوقادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک رات گھر سے باہر نکلے تو آپ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں پایا، وہ دھیکی آواز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، پھر آپ کا گزر عمر کے پاس سے ہوا، وہ نماز کی حالت میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جب وہ دونوں حضرات نبی ﷺ کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا: ابو بکر! میں تمہارے پاس سے اس حال میں گزر اک تم نماز کی حالت میں تھے، اور پست آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے!! ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا اسے میں نے سنادیا ہے، پھر آپ ﷺ نے عمر سے کہا: میں تمہارے پاس سے اس حال میں گزر اک تم نماز کی حالت میں بلند آواز سے قرآن پڑھ

رہے تھے !! عمر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں سونے والے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا اور شیطان کو بھگار رہا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر! تم تھوڑی سی اپنی آواز اوپنجی کرو اور عمر سے فرمایا: عمر! تم اپنی آواز ذرا پست کرو۔ [ابوداود (۱۳۲۹) علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے دیکھئے صحیح سنن ابی داود (۱۱۸۰)]۔

### ☆ تیسرا قلعہ: آیتہ الکرسی ☆

بخاری شریف میں یہ چیز ثابت ہے کہ: جس نے بستر کو ٹھکانا بناتے وقت آیتہ الکرسی پڑھ لیا تو مسلسل اس کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نگراں متین کر دیا جاتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ [بخاری (۵۰۱۰، ۳۲۷۵، ۲۳۱)]۔

اور امام نسائی کی کتاب ”عمل الیوم واللیلة“ میں یہ چیز ثابت ہے کہ: جس نے صبح سوریے آیتہ الکرسی پڑھ لیا اسے شام تک جنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اسے صبح

تک جنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ [عمل الیوم واللیلة (۱۰۷۹)]

### ☆ چوتھا قلعہ: سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا ☆

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی جس سے دو آیتیں نازل کر کے سورہ بقرہ کو مکمل کیا، اور جس گھر میں تین رات تک انھیں پڑھا جائے اس گھر کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ ترمذی [۲۸۸۲]۔

### ☆ پانچواں قلعہ: معوذتاں (قل اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھنا ☆

شیطان کی برائی، اور اس کا دفعیہ، نیز اس سے فج کر اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنے کے لئے معوذتاں کے اندر عجیب و غریب تاثیر موجود ہے، اور بندے کے لئے ان دونوں سورتوں کے ذریعہ اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنے کی حاجت اس کے کھانے پینے کی حاجت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ جنوں اور انسان کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، پس جب یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں اختیار کر کے ان کے علاوہ امور کو ترک کر دیا۔ [نسائی (۵۲۹۶) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی (۵۰۶۹) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جھہ اور ابواء ”وجگھوں کے نام ہیں“ کے مابین سیر کر رہے تھے اچانک ہمیں ہوا، اور سخت تاریکی نے ڈھانپ لیا، تو رسول اللہ ﷺ قل أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اور قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے لگے اور فرمایا: ”يَا عُقْبَةً تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذْ بِمِثْلِهِمَا“ ”اے عقبہ ان دو سورتوں کے ذریعہ اللہ عز وجل کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان دو سورتوں کے ذریعہ جیسی پناہ نہیں مانگی۔“ [ابوداؤد (۱۳۶۳) علامہ البانی نے اسے صحیح قرار

دیا ہے دیکھئے صحیح الجامع (۷۹۲۹)۔]

مندرجہ ذیل مقامات پر معوذ تین کا پڑھنا مشروع ہے:

(۱) صحیح و شام:

عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ ایک رات بارش اور شدید تاریکی کی حالت میں ہم رسول اللہ ﷺ کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پالیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہو! لیکن میں نے کچھ نہ کہا، پھر آپ نے فرمایا: کہو! مگر میں نے کچھ نہ کہا، پھر آپ نے فرمایا: کہو! تو میں نے کہا: کیا عرض کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قل هو اللہ اَحَدُ، اور معوذ تین صحیح و شام تین تین بار کہو یہ تمہارے لئے ہر چیز سے کفایت کرے گی۔ [ابوداؤد (۵۰۸۲) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد (۳۲۳۱) میں اسے حسن قرار دیا ہے]۔

(۲) سوتے وقت:

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ جب رات میں اپنے بستر کی طرف قرار پکڑتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں جمع کر کے اس میں پھونک مارتے اور اس میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھتے پھر اپنے بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے اور اس عمل کی شروعات سر، چہرہ اور بدن کے سامنے والے حصے سے کرتے، اور ایسا آپ ﷺ تین بار کرتے [بخاری (۵۰۱۶)، مسلم (۲۳۱۹، ۵۷۸۸)]۔

(۳) ہر نماز کے بعد:

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معاذ تین پڑھا کرو۔ [ترمذی (۲۹۰۳) علامہ البانی نے صحیح سنن ترمذی (۲۳۲۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

(۲) بیماری کے وقت:

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول ﷺ کے خاندان کا کوئی فرد جب بیمار ہو جاتا تو آپ ﷺ معاذات پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے، مرض الموت میں جب آپ ﷺ بیمار تھے تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی، اور نبی ﷺ کے بدن پر خود آپ کا ہاتھ پھیرتی تھی، کیونکہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ کے نسبت زیادہ برکت ہے۔ [مسلم (۲۱۹۲)]۔

### ☆ چھٹا قلعہ: سوم رتبہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا ☆

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ ”اللَّهُ أَعْزُّ وَجْلَ كے سوا کوئی معبود برق نہیں، وہ کیتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت اور اسی کی لئے ساری تعریفیں

ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ”روزانہ سو بار کہا، تو اسے دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں سونیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس کے لئے یہ دعا شام تک شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گی۔“ [بخاری (۲۹۰۳، ۳۲۹۳) مسلم (۲۶۹۱)]۔

### ☆ ساتواں قلعہ: کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ☆

حارث الأشعري رضي الله عنه كہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ عزوجل نے مجی بن زکریا علیہما السلام کو پانچ کلمات پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا پابند کیا، [ان کلمات میں سے اس کا یہ قول کہ:] میں تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم اللہ عزوجل کا ذکر کیا کرو کیونکہ ذکر کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکلا، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعہ کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو

دشمن سے محفوظ کر لیا ٹھیک اسی طرح بندہ شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا مگر اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعہ۔ [ترمذی ۲۸۶۳] علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۲۲۹۸) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

### ☆ آٹھواں قلعہ: سجدہ تلاوت کرنا ☆

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ آیت سجدہ کی تلاوت کر کے سجدہ کر لیتا ہے، تو شیطان گوشہ نشینی اختیار کر کے روتا ہے، اور کہتا ہے ہائے میری بر بادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس نے سجدہ کر لیا، تو اس کے لئے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پر میں نے نافرمانی کی، تو میرے لئے دوزخ ہے۔ [مسلم (۸۱)]

### ☆ نواں قلعہ: بسم اللہ پڑھنا ☆

جو شخص شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہے اس کے لئے

ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بریں بنا شیطان کو مغلوب کرنے کے لئے بہت سارے امور میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں سے بعض مقامات مندرجہ ذیل ہیں:

**پہلا مقام:** جب سواری کا جانور لڑکھڑا جائے:  
 ابو عایش ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ: میں نبی ﷺ کا ردیف ”سواری پر پیچھے سوار“ تھا اچانک آپ ﷺ کی سواری پھسل گئی، تو میں نے کہا: ہلاک ہو شیطان، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو: کیونکہ جب تم ایسا کہو گے تو شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر کے مانند ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میری طاقت کی وجہ سے، لیکن تم بسم اللہ کہو، کیونکہ تمہارے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان حقیر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کمھی کے مانند ہو جاتا ہے۔ [ابوداؤد (۳۹۸۲)]

علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے دیکھئے صحیح سنن ابی داود (۲۱۶۸)۔

**دوسرامقام: گھر سے نکلتے وقت:**

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ”بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ ”اللہ کے نام سے، میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا، نہ کوئی حرکت ہے نہ قوت مگر اللہ عزوجل کی مشیخت سے“ پڑھ لیا، تو اس وقت کہا جاتا ہے : تو اراہ یا ب ہوا، مستغفی اور محفوظ کر دیا گیا، پس شیطان اس سے پرے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہتا ہے کہ : تمہیں اس آدمی سے کیا سروکار جس کی صحیح رہنمائی کر دی گئی، اسے مستغفی اور محفوظ کر دیا گیا؟ [ابو داود (۹۵) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۲۲۳۹) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

### تیسرا مقام: جماع کے وقت:

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا، اور اس نے یہ دعا پڑھ لی: ”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَنَ وَجَنِبْ الشَّيْطَنَ مَارَزَقْنَا“ ”اللہ کے نام سے، اے اللہ! شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور جو تو ہمیں بطور مولود رزق عنایت کرے گا شیطان کو اس سے دور رکھ، پس انھیں اولاد عنایت کی گئی تو شیطان اسے گزندن ہمیں پہنچا سکتا۔ [بخاری (۱۳۱، ۳۲۷۱، ۳۲۸۳، ۳۲۸۵)، مسلم (۵۱۲۵)۔]

### چوتھا مقام: بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت:

علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم کی شرمگاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان پرده بیت الخلا میں داخل ہونے سے قبل بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ [ترمذی (۶۰۶)]

اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۲۹۶) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

**پانچواں مقام: کھانا کھاتے وقت:**

jaber رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اپنے داخل ہونے، نیز کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: تمہارے لئے رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے، نہ رات کے کھانے کا، اور اگر داخل ہوتے وقت اللہ عزوجل کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے: تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور جب کھاتے وقت اللہ عزوجل کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے نیز رات کے کھانے کا ٹھکانہ پالیا،“ [مسلم (۲۰۱۸)]

☆ دسوائی قلعہ: تقدیر کو تسلیم کرنا ☆

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک طاقتوں مومن کمزور مومن کے بال مقابل بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے، اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر حرجیں ہو جاؤ، اللہ عزوجل سے مدد طلب کرو اور عاجز مت ہو، اگر تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یہ مت کہو کہ :اگر یہ کیا ہوتا تو ایسا ہوتا لیکن یہ کہو: ”فَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ“ ”اللہ نے جو مقدر کیا اور جیسا چاہا کیا،“ کیونکہ لفظ لو (اگر مگر) شیطان کے عمل کو ہوں دیتا ہے،“ [مسلم (۲۶۶۳)].

### ★ گیارہوال قلعہ: قیام اللیل ★

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (تم میں سے کسی آدمی کے سر کے پچھلے حصے میں اس کے سونے کے وقت شیطان تین گرہ لگاتا ہے، ہر گرہ کی جگہ پر کہتا ہے: سو جارات بڑی لمبی ہے، پس جب وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا

ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، اور جب وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک اور (تیسرا) گرہ کھل جاتا ہے پھر وہ چستی اور نفس کی پا گیزگی کی حالت میں صحیح کرتا ہے، ورنہ وہ کامی اور نفس کی خباثت کے ساتھ صحیح کرتا ہے۔ [بخاری (۳۲۶۹، ۱۱۳۲) مسلم (۷۷۶)].

☆ بارہواں قلعہ: استعاذه (شیطان سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرنا) ☆

استعاذه بہت سارے امور میں مشروع ہے:

(۱) قرآن کریم کی تلاوت کے وقت:

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کا ارشاد ہے: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ﴾ [آلہ: ۹۸].

ترجمہ: قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ [سورہ نحل (۹۸)].

(۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: "أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوْجَهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ" "میں عظیم اللہ، اس کے کریم چہرے کی اور قدیم بادشاہی کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے"۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ دعا پڑھ لی تو شیطان کہتا ہے: آج کے دن مکمل طور پر مجھ سے محفوظ کر دیا گیا، [ابوداؤد (۳۲۶) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد (۳۳۱) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

(۳) بیت الخلا میں داخل ہونے کے وقت:

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ ان پاخانوں میں شیاطین رہتے ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص پاخانہ جائے تو "أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" "میں خبیث اور خبئثوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں"

پڑھ لے،” [ابوداود (۲) ابن ماجہ (۲۹۶) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع (۲۲۶۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

### (۴) غصے کے وقت:

سلیمان بن صرد کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دلوگ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے نتھنے پھول گئے، تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے یہ کہہ لیوے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اگر یہ آدمی ‘أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ’، ”شیطان سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں“، کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے [بخاری (۳۲۸۲) مسلم (۲۶۱۰)]۔

### (۵) قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد:

ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ

اَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝

”اے اللہ! تو پاک ہے (ہر عیب اور ہر نقص سے) سب تعریفیں  
تیرے ہی لئے ہیں با برکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور  
تیرے سوا کوئی معبد حقیقی نہیں، پھر آپ ﷺ تین بار ”لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ“ کہتے اس کے بعد تین بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا“ کہتے پھر آپ  
عليه السلام ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ مِنْ  
هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ“ ”میں سننے والے جانے والے اللہ کی پناہ  
چاہتا ہوں شیطان مردوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے  
پھونکنے سے، یعنی کبر و نحوت سے اور اس کے اشعار اور جادو سے“  
پڑھتے۔ [ابوداؤد (۵۷۷) اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد  
(۱۰۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

(۶) شیطان کی طرف سے وسوسوں کے احساس کے وقت:

اللَّهُعَزُوجَلُ کا ارشاد ہے: هُوَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ

فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِّمٌ ﴿٢٠٠﴾ [الاعراف: ۲۰۰]

ترجمہ: اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ [سورہ اعراف آیت نمبر (۲۰۰)]

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيِّمُ﴾

ترجمہ: اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جانے والا ہے۔ [سورہ فصلت: ۳۶].

اور اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿☆﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنِّي حَضُرُونِ﴾

ترجمہ: اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے

وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں ۔ اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں ۔ [سورة المؤمنون (۹۷، ۹۸)]۔  
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی کامل واکمل ربویت کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا اس عظیم مخلوق سے جس کا وظیرہ ہی فساد ہے کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ، اس کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ ہے ۔  
[الروح (ص ۳۱)]۔

اور جب وہ ذات گرامی جو سارے جہاں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ عقلمند، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے اس کے باوجود اسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے تو تمہاری کیا حالت ہوگی باوجود تمہاری جہالت، غفلت اور نقصان عقل کے؟!

(۷) موت کے وقت شیطان کے خبطی بنادینے سے پناہ مانگنا:

نبی کریم ﷺ کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے ”وَأُغْرِيْهُوْذِبِكَ أَنْ

يَتَخَبَّطُنِي الشَّيْطَنُ إِنْدَ الْمَوْتِ ”

”اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت مجھے خبطی بنا دے“ [ابوداود (۱۵۵۲)] اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع (۱۲۸۲) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(۸) کتنے کے بھونکنے اور گدھے کے ڈھپوں ڈھپوں سنتے وقت:

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب تم کتنے کے بھونکنے اور گدھے کے ڈھپوں ڈھپوں کی آواز رات کے وقت سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ یہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو (شیطان)۔“ [ابوداود (۳۱۰۳)، اور امام بخاری نے الادب المفرد (۱۲۳۳) میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع (۶۲۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”...جب تم گدھے کی آواز سن تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان دیکھا،“ [بخاری (۳۳۰۳)، مسلم (۲۷۲۹)].

### (۹) نیند میں گھبراہٹ کے وقت:

ابن عمر و رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نیند کی حالت میں گھبرا جائے اور یہ دعا پڑھ لے ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونَ“

”میں اللہ عز وجل کے پورے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غصب سے، اس کے عذاب سے اور اسکے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آ جائیں، تو یہ چیزیں اسے ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گی،“ [ترمذی

(۳۵۲۲) اور البانی نے صحیح سنن ترمذی (۲۷۹۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

(۱۰) نیند کی حالت میں جب ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھے:

ابوقادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں اچھی چیز دیکھے تو اسے نہ بیان کرے سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ دوست رکھتا ہے، اور جب ناپسندیدہ چیزیں دیکھے تو اللہ عزوجل سے اس کی برائی، اور شیطان کی برائی سے پناہ مانگے، اور تین بار تھوک دے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ یہ اسے نقصان نہیں پہونچا سکتی ہیں [بخاری (۷۰۳۳)، مسلم (۲۲۶۱)]۔

(۱۱) نظر اور حسد کے وقت:

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ حسن اور حسین کے

لئے ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے تھے ”أَعِيدُ كُمَا بِكَلِمَاتٍ

اللَّهُ التَّامَّ، مِنْ كُلٌّ شَيْطَنٌ وَّهَامَّةٌ، وَمِنْ كُلٌّ عَيْنٌ لَّامَّةٌ“

”تم دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر

شیطان سے اور زہردار کیڑوں سے اور ہر قسم کی بربی نظر سے“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے والد ”ابراہیم علیہ السلام“

اسماعیل اور اسحق علیہما السلام کے لئے ان کلمات کے ذریعہ دعا

فرماتے تھے۔ [بخاری (۳۲۸۱) ابو داود (۲۷۳۲) الفاظ ابو داود

کے ہیں]۔

### (۱۲) صحیح و شام:

ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے

پوچھا: اے اللہ کے رسول مجھے بتلا یئے کہ میں صحیح و شام کیا کہوں؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! یہ کہو: ”اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيٍّ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَنِ وَشَرِّ كِهٍ، وَأَنْ  
اَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيٍّ سُوءً أَوْ أَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ”

”اے اللہ آسمان وزمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر  
کے جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں اپنے نفس  
کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا  
ہوں، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں، یا  
کسی مسلم سے برائی کروں“ [الادب المفرد (۱۲۰۳) البانی رحمہ اللہ  
نے صحیح الأدب المفرد (۹۱۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

### ☆ تیر ہواں قلعہ: غصہ پی جانا ☆

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی کریم ﷺ کا گزرائیک  
قوم پر ہوا جو پہلوانی کر رہی تھی آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون ہے؟  
لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول یہ فلاں پہلوان ہے، کوئی آج  
تک اسے پچھاڑنہ سکا بلکہ اسی نے سب کو پچھاڑ دیا ہے، تو رسول اللہ

نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتلاوں جو اس سے بڑا پہلوان ہے؟ ایسا شخص جس سے کسی آدمی کے ساتھ تو تو میں میں ہو گئی پر اس نے اپنا غصہ پلیا، تو اس نے اسے، اس کے شیطان، اور اس کے ساتھی کے شیطان کو مغلوب کر دیا۔ [بزار (۲۰۵۳) حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۵۱۹/۱۰) میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے]۔

### ☆ چود ہواں قلعہ: صفوں کی درستگی ☆

۱- ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”صفوں درست کر لو، موئذھوں کو برابر کر لو، اور خالی جگہیں پر کر لو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، اور شیطان کے لئے درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑو، جس نے صف ملایا اللہ تعالیٰ اسے بھی ملادے گا ”اپنی رحمت سے“ اور جس نے صف کاٹا اللہ تعالیٰ اسے بھی کاٹ دیگا ”اپنی رحمت سے“ [ابوداؤد (۲۶۶) اور البانی

نے صحیح سنن ابی داود (۲۲۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

۲- انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اپنی صفیں درست کرو...“ اور ہم میں سے ہر ایک اپنا موئڈھا اپنے ساتھی کے موئڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے چپکا دیا کرتا تھا۔ [بخاری (۷۲۵)]۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے کر یہ باب باندھا ہے: ”بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدْمِ بِالْقَدْمِ فِي الصَّفَّ“ ”صف میں موئڈھے سے موئڈھا اور قدم سے قدم چپکانا“۔

۳- نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؛ ثَلَاثًا، وَاللهِ تُقْدِيمَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ“

”اپنی صفیں درست کرو؛ تین بار، اللہ کی قسم! تم ضرور اپنی صفیں

درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، راوی کہتے ہیں کہ: میں نے دیکھا آدمی اپنا موٹھا اپنے ساتھی کے موٹھے سے اور اپنا گھٹنا اپنے بازو والے شخص کے گھٹنے سے، اور اپنا ٹخنہ اپنے ساتھی کے ٹخنے سے چپکا رہا ہے۔ [ابوداؤد (۲۶۲) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۶۱۶) میں صحیح قرار دیا ہے]۔

(۳) انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رُصُوْصُفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُّوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَنَ يَدْخُلُ مِنْ خَلِيلِ الصَّفِّ،  
كَانَهَا الْحَدَّفُ“

”اپنی صھیں ملاو، ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کے گردن کے مقابل میں رہو، قسم اس ذات کی جس کے

ہاتھ میں میری جان ہے، بلاشبہ میں شیطان کو صف کے شگاف میں بکری کے چھوٹے، سیاہ بچے کے مانند داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ”الحدف“ اس کے معنی ہیں بکری کے چھوٹے سیاہ بچے کے [حاکم نے متدرک (۱/۳۱، ۱۵۲۱) میں نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔]

### ☆ پندرہواں قلعہ: سجدہ سہو کرنا ☆

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کو نماز کی حالت میں شک ہو جائے، اور اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا چار رکعت؟ تو اسے چاہئے کہ شک کی طرف دھیان نہ دے کر یقین پر بناؤ کرے، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے، اگر اس نے پانچ رکعت پڑھ لی تو چار رکعت اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس نے چوتھی رکعت کو پوری کرنے کے لئے ایک

رکعت پڑھی تو یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے ہوگی۔” - مسلم  
(۵۷۱)

### ☆ سولہواں قلعہ: جماعت کا نزوم ☆

عرفجہ بن شریح الأشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی  
کریم ﷺ کو منبر پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے  
ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الشَّيْطَنَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرُكُضُ“  
” بلاشبہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ دوڑتا ہے جو جماعت سے  
علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں،“ [نسائی (۳۰۲۲) اور البانی رحمہ اللہ نے  
صحیح سنن نسائی (۳۷۵۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر نے جابیہ ”ایک جگہ کا نام  
ہے،“ میں ہمیں خطبہ دیا، فرمایا: میں تمہارے درمیان اس مقام پر  
کھڑا ہوں جس مقام پر رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے  
ہوتے تھے، اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ،

وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْأَئْتَنِينَ  
أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحُبُّهُ حَةَ الْجَنَّةِ فَلِيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ”

”جماعت کو لازم پکڑ لو، اور تفرقہ بازی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے بال مقابل دو سے زیادہ دور ہتا ہے۔ جو شخص بہترین جنت کے بہتر درجہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑ لے،“ ترمذی (۲۱۶۵) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۷۵۸) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ“

”جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو گرچہ تم تھا ہی کیوں نہ ہو،“ لاکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ (۱۶۰) میں نقل کیا ہے اور محدث البانی رحمہ اللہ نے مشکاة المصاتیح (۱/۶۱) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابو شامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: لزوم جماعت کا جو حکم وارد ہے؛ تو اس سے لزوم حق اور اس کی اتباع مراد ہے، گرچہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والوں کی تعداد کم اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ حق وہی ہے جس پر پہلی جماعت نبی ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانہ سے قائم ہے، اور ان کے بعد اہل بدعت کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں [اباعث علیٰ إنكار البدع والحوادث (ص: ۱۹، ۲۰)].

یقیناً اسلام جماعت کے تمام تراشکال کے ساتھ اس پر حریص ہے کیونکہ یہ شیطان کے بھگانے کا آلہ ہے۔

### (۱) پہلی شکل: جماعت سے نماز پڑھنا:

ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کسی بستی یا کسی دیہات میں تین آدمی ہوں، اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر یہ کہ شیطان ان پر غلبہ پالے گا، تو اے لوگو! جماعت کو لازم پکڑ لو کیونکہ بھیریار یوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری کو

کھا جاتا ہے، [نسائی (۸۳۹) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی (۸۱۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

### دوسری شکل: سفر کی جماعت:

ابن عمر و رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایک سوار اور دوسرا شیطان ہوتے ہیں، اور تین (حقیقت میں) سوار ہیں“ [ابوداود (۲۶۰) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۲۲۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

### تیسرا شکل: مجلس میں اکھٹا ہونا:

جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کی طرف نکلے تو ہمیں حلقوں میں بٹا ہوا دیکھ کر فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں متفرق دیکھ رہا ہوں؟

ابو غلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی منزل پر پڑا اُذالٰتے وقت لوگ گھاٹیوں اور دروں میں بٹ جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ” بلاشبہ تمہارا وادیوں اور دروں میں متفرق ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے،“ اس فرمان کے بعد جب صحابہ کرام کسی مقام پر قیام کرتے تو ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے، یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر ان پر چادر ڈالی جائے تو سب کو شامل ہو گی۔ [ابوداؤد (۲۲۸) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد (۲۲۸۸) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

**چوتھی شکل:** اکھٹے ہو کر کھانا کھانا:

وَحْشِيْ بْنُ حَرْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَہتے ہیں کہ نبی ﷺ کے اصحاب نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کھاتے ہیں مگر آسودہ نہیں ہوتے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”شاید تم سب الگ الگ کھاتے ہو؟“ لوگوں نے کہا: ایسا ہی ہے! تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم سب اکھٹے ہو کر کھایا کرو، اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہو گی،“ [ابو داؤد (۳۷۶۳) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد

(۳۱۹۹) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔]

یقیناً یہ افسوس ناک بات ہے کہ آج آپ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے خاص طور ان لوگوں کو جو فرنگی عادات اور یورپی تقلید سے متاثر ہیں کہ کس طرح شیطان ان کے اموال کے ایک حصے پر قابض ہے، اور یہ ظلم و زیادتی کے طور پر نہیں بلکہ محض ان کے اختیار سے، اور ایسا سنت سے غافل ہونے یا اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ الگ الگ دسترخوان لگاتے ہیں، اور ان کا ہر فرد تنہا کھاتا ہے، اس بات کی ضرورت کا احساس کئے بغیر کہ ان کے لئے کوئی خاص بڑا سا پیالہ ہو، وہ کھانے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے چہ جائے کہ وہ اس کے بغل کا پڑوںی ہی کیوں نہ ہو، جب کہ گزری ہوئی حدیث میں اس کے خلاف اکھٹا کھانے کا حکم ہے۔ [سلسلۃ الاحادیث الصحیحة (۳۹۵، ۳۹۲/۳)]

☆ ستر ہواں قلعہ: تشهید میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ☆  
 نافع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز کی حالت  
 میں بیٹھتے تو اپنادونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی انگلی  
 سے اشارہ کرتے، اور اپنی نگاہ اس پر جمائے رکھتے پھر فرماتے کہ  
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لَهُيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَنِ مِنَ  
 الْحَدِيدِ" ”یہ (شہادت کی انگلی) شیطان پر لو ہے سے بھی زیادہ  
 بھاری ہے،“ [احمد (۲۰۰) اور اس کی سند حسن ہے جیسا کہ البانی  
 رحمہ اللہ نے مشکاة المصابیح (۱/۲۸۹) میں اسے حسن کہا ہے]۔

☆ اٹھاڑ ہواں قلعہ: سترہ رکھ کر نماز ادا کرنا ☆  
 سہل بن ابی حممه رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
 ارشاد فرمایا: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتُّرٍ فَلْيَدْعُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ  
 عَلَيْهِ الشَّيْطَنُ صَلَاتَهُ" ”جب تم میں سے کوئی شخص سترہ رکھ کر نماز ادا کرے تو اسے

چاہئے کہ اس سے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز باطل نہ کر سکے، [ابو داود (۲۹۵) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۲۳۳) میں اسے صحیح فرا دیا ہے]۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ سترہ کی مقدار کفایت جو نمازی کے لئے آڑ پیدا کرتی ہے، اور اس کے سامنے سے گزرنے والے کے ضرر کو روکتی ہے وہ کجا وہ کچھلے حصے کی لمبائی کے بقدر ہے۔

طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص پالان کی کچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز رکھ لے تو اسے چاہئے کہ نماز ادا کرے، اور اس شخص کی پرواہ نہ کرے جو اس کے پرے سے گزرے“۔ [مسلم (۸۹۹)]

## ☆ انیسوائیں قلعہ: اللہ عزوجل سے دعا کرنا ☆

ابوالازہر الانماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت جب اپنی خواب گاہ میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا

پڑھتے ”بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَاحْسَأْ  
شَيْطَنِي، وَفُكْ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى“

”اللَّهُ كَنَامَ كَسَاتِهِ مِنْ نَّفْسِي أَنَا بِهِ لَوْرَكَهَا، أَنْتَ اللَّهُ أَنْجَشْ  
دَنْ مِيرَأَكَنَاهَا، أَوْ مِيرَ شَيْطَانَ كَوْ (مَجْهُوَّ) سَدَدَ دَرْكَهُ، أَوْ  
مِيرَى گَرْوَى كَوْ چَهْرَادَهُ، أَوْ مجْهَى اوپر کی مجلس“ فرشتوں اور پیغمبروں  
کی مجلس، میں کردے“ [ابو داود (۵۰۵۳) اور البانی رحمہ اللہ نے  
صحیح سنن ابی داود (۲۲۲۶) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسَلَّمَ فرمایا: ”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيُقُولُ  
”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلَيُسَلِّمْ عَلَى  
النَّبِيِّ“ وَلَيُقُولُ ”اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ“  
”جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم ﷺ پر  
سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے ”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“

”اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“ اور جب مسجد سے نکلے تو نبی کریم ﷺ پر سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے ”اللَّهُمَّ اغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ“ ”اے اللہ شیطان مردود سے میری حفاظت فرماء“ - [ابن ماجہ (۳۷۷) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ (۶۲۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

### ☆ بیسوائیں قلعہ: شیطان کی مخالفت کرنا ☆

بلاشبہ مومن صادق جو شیطان سے اپنا تعلق کامل طور پر منقطع کرنا چاہتا ہواں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل امور میں شیطان کی مخالفت کرے:

(۱) جلد بازی:

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اچھی طرح غور و فکر کرنا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے“ - [ابو یعلیٰ نے حسن سند کے ساتھ (۲۲۵۶)]

میں نقل کیا ہے]۔

(۲) دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا:

عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا أَنْ يُجْلِسَ بَيْنَ الصَّحَّ وَالظَّلْلِ وَقَالَ :”مَجْلِسُ الشَّيْطَنِ“

”نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے دھوپ اور چھاؤں کے مابین بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا: یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے“ [احمد (۳۱۲، ۳۱۳/۳) ۱۵۳۶۲] اور یہ سند حسن ہے]۔

الصَّحَّ: اس کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں جب زمین پر اس کی قدرت حاصل ہو؛ مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں پر اس کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہو۔

(۳) کھانا پینا:

ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

جب تم میں سے کوئی شخص کھانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پینا چاہے تو دائیں ہاتھ سے پئے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ [مسلم (۲۰۲۰)]

(۴) لینادینا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے پئے، اپنے دائیں ہاتھ سے لے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے دیتا اور اپنے بائیں ہاتھ سے لیتا ہے“ [ابن ماجہ (۳۲۶۶) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ (۲۶۲۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

(۵) تکبر کرنا:

جان لو ”میرے بھائی“ اللہ عز و جل شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ تکبر ابلیس کی صفات میں سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِئَةِ اسْجُدُوا لِإِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا [البقرۃ: ۳۲]

ایک دوسرے مقام پر اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَأْكُلُنَّ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاحْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصُّغِرِينَ﴾

ترجمہ: حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تجوہ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے سونکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے [آل عمران: ۱۳]

اس صفت میں شیطان کی مخالفت تواضع کے ذریعہ ہو گی، اور تواضع کی دو قسمیں ہیں:

**پہلی قسم:** بندے کا تواضع اختیار کرنا اللہ عزوجل کے اوامر کی بجا آوری اور اس کے نواہی ”جن چیزوں سے روکا ہے“ سے اجتناب کر کے۔

**دوسری قسم:**

پروردگار کی عظمت اور اس کی بزرگی کے لئے تواضع اختیار کرنا، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے لئے جھک جانا۔ [الروح (ص ۳۱۲)]

(۶) شیطان قیلوہ نہیں کرتا:

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو!“ قیلوہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلوہ نہیں کرتا۔ [طبرانی نے اوسط (۱/۲۸، ۱۳) میں نقل کیا ہے، اور یہ صحیح الجامع (۲۳۳۱)

میں بھی موجود ہے۔]

(۷) شیطان صرف ایک پیر میں جوتا پہن کر چلتا ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: “إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْسِيُ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ”

” بلاشبہ شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے،“ [طحاوی نے مشکل الآثار (۱۲۲/۲)، اور محدث البانی رحمہ اللہ نے (صحیحہ ۳۲۸) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

(۸) اسراف اور فضول خرچی:

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْرَوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

ترجمہ: بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں -

[الإسراء: ۲۷].

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ

سے ارشاد فرمایا: ایک بستر آدمی کے لئے، دوسرا اس کی بیوی کے لئے، تیسرا مہمان کے لئے، اور چوتھا شیطان کے لئے ہے۔ [ابو داود (۳۲۸۲)، اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۳۲۸۹) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

### اکیسوال قلعہ: توبہ و استغفار کرنا:

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا أَفَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾  
ترجمہ: یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یہاں کیک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ [الاعراف: ۲۰۱].

جب بندے کے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اسے غفلت لاحق ہو، اور شیطان جو مسلسل اس کی نگرانی، اور اسکی غفلت کی تاک میں رہتا ہے، اس سے کچھ حاصل کرے، تو اللہ عز و جل

نے گمراہ لوگوں کے بال مقابل متقیوں کی نشانی بیان فرمادی، اور یہ کہ پرہیز گار شخص جب کسی گناہ کا احساس کرتا ہے، اور اسے شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے، پس وہ کسی حرام کے ارتکاب یا ترک واجب کا گناہ کر بیٹھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ آخر کس دروازے سے یہ چیزوں داخل ہوئیں اور کس راستے سے شیطان اس کے پاس آ دھما کا، پھر وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب قرار دی ہیں پس وہ سمجھ جاتا ہے اور اللہ عز وجل سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنی کوتا ہیوں کی خالص توبہ اور بہت زیادہ نیکیوں کے ذریعہ تلافی کرتا ہے، اور اپنے شیطان کو خائب و خاسرو اپس کرتا ہے، اور جو کچھ شیطان نے اس سے حاصل کیا تھا اسے بگاڑ دیتا ہے۔ [تيسیر الکریم الرحمن ۱۸۳/۲].

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”شیطان اللہ تعالیٰ سے یوں مخاطب ہوا اے میرے

رب! تیری بزرگی کی قسم! میں مسلسل تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی رو حیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا: میری عظمت و بزرگی کی قسم! جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔“ [حاکم (۲۶۱/۳) اور محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع (۱۶۵۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

### ☆ بائیسوں قلعہ ☆ اچھی بات:

اللَّهُ أَعْزُّ وَجْلًا كَا إِرْشَادٍ هُنَّ  
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُونَ الَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ  
عَدُوًّا أَمْبِينَا ﴿۱۷﴾

ترجمہ: اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ [الإسراء: ۵۳]

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ اپنی گفتگو اور بات چیت میں عمدہ کلام اور اچھا کلمہ استعمال کریں، کیونکہ اگر ایسا ان لوگوں نے نہ کیا تو شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالے گا، اور بات کی بتنگڑی بنائے کر لوگوں کو برائی، اور لڑائی جھگڑا میں مبتلا کر دے گا، اس لئے کہ وہ آدم اور اس کی ذریت کا دشمن اس وقت سے ہے جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی دشمنی واضح اور ظاہر ہے۔ [تفسیر القرآن العظیم (۲۵/۳)]۔

### ☆ تیکواں قلعہ: اللہ عزوجل کو مضبوطی سے تھامنا ☆

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

ترجمہ: اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا

ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔

یعنی جب تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو وہ شیطان کے خلاف تمہاری نصرت و حمایت کرے گا، اور شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا اور شیطان کی دشمنی کسی بیرونی دشمن کی عداوت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

لہذا اس دشمن کے خلاف مدد کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور بندہ اس کا زیادہ ضرر و تمذبھی ہے، اور اس دشمن کے خلاف کامل نصرت اللہ عز و جل کو مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ تھام لینے پر منحصر ہے، اور اعتصام کی کمی بندے کو اللہ عز و جل کی حمایت سے دور کر دیتی ہے جو درحقیقت ذلت و رسوانی کا باعث ہے۔ اگر اللہ عز و جل تجھے اور شیطان کو اکھٹا چھوڑ دے تو وہ تجھے رسو اکر دے گا، اور اگر تجھے اس سے محفوظ رکھا اور تو فیق ارز رانی بخشا تو شیطان کو تیری طرف آنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

بندہ اللہ عز و جل اور اس کے دشمن ابلیس کے درمیان پھینکا ہوا ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی تو اس کا دشمن اس پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ عز و جل اس کی مدد کرنی چھوڑ دے اور اس سے اعراض کر لے تو شیطان اسے پھاڑ کھالے جس طرح بھیڑ یا بکری کو پھاڑ کھا لیتا ہے جب چردا ہا اس سے الگ ہو جاتا ہے، تو شیطان انسان کے لئے بھیڑ یا ہے۔

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب رائی خود بکری اور بھیڑ یے کو اکھٹا چھوڑ کر الگ ہو گیا تو اس میں بکری کا کیا گناہ؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ بھیڑ یے پر غالب آ کر اس سے چھٹکارہ حاصل کر لے؟۔

تو اللہ عز و جل کی توفیق کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کے لئے بھیڑ یا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مردود بھیڑ یے کو اس بکری پر باوجود اس کی کمزوری اور ضعف کے غلبہ نہیں بخشا، پس

جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بھیڑیے کے حوالہ کر دیا، یا بھیڑیے نے اسے دعوت دی اور اس نے اس کی دعوت پر بلیک کہہ دیا، اس کی بات مان لی، اور ذرا بھی پس و پیش نہ کیا، بلکہ نہایت سرعت کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کی، اور اس چراگاہ کو چھوڑ دیا جس میں بھیڑیوں کے داخل ہونے کا امکان نہیں، اور بھیڑیوں کے ٹھکانہ میں چلی گئی جہاں پہنچ کر بکریاں ان کا شکار بن جایا کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں سارا گناہ بکری کا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اس صورت میں جب کہ رائی ان سے ڈرائے، دھمکائے اور انہیں بھیڑیوں کا خوف بھی دلائے، جب کہ یہ ان بکریوں کا انعام دیکھ چکی ہیں جو چروائے کی دسترس سے الگ تھلگ ہو کر بھیڑیوں کی وادی میں چلی جایا کرتی ہیں۔

یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کے بھیڑیے سے متعدد بار ڈرایا ہے، اور وہ انکاری ہے، لیکن اگر شیطان اسے دعوت دیتا

ہے تو وہ اس کی دعوت پر بلیک کہتا ہے، اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور صبح کرتا ہے۔ [شفاء العلیل (۱/۳۱۳-۳۱۱) مختصر تصرف کے ساتھ]۔

تو کون سی کامیابی، کون سی فراخی زندگی اور کیا عیش ہے اس شخص کے لئے ہے جس نے اپنے ولی اور اپنے اس مولی سے، جس سے پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ مستغتی نہیں، جس کا وہ ضر و تمدن ہے، اور اس کے لئے جس کا کوئی بدیل نہیں اپنا تعلق منقطع کر لیا، اور اپنے اور اس کے بڑے دشمن کے درمیان پہنچ گیا، پھر کیا!! اس کا دشمن اسے ہر ناجیہ سے دوست بنالیتا ہے اور اس کا دوست اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور جس کا دشمن ہی اس کا دوست بن جائے اور اس پر غلبہ حاصل کر لے تو اس کو مصیبت میں گرفتار کر دے گا اور اسے تکلیف و پریشانی میں مبتلا کرنے کا کوئی دلیل فروگز اشت نہ رکھے

## ☆ چوبیسوال قلعہ: بندگی اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا ☆

جب اللہ کے دشمن ابیس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ دار و مدار دل پر ہے اور قابل اعتماد وہی ہے تو اس پر وسوسوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، اور نفسانی خواہشات سے اس کا استقبال کرتا ہے، اور اس کے لئے ایسے احوال و اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اور اس کے لئے گمراہی کے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو اسے توفیق کے ذرائع سے جدا کر دیں، اور اس کے لئے ایسے پھنڈے اور جال بچھا رکھا ہے کہ اگر اس سے بندہ نجح جائے تو کم از کم پریشان ضرور ہو، شیطان کے جال اور اس کے مکر سے نجات نہیں مل سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے پر مداومت برتنے سے، اور اس کی خوشنودی کے اسباب مہیا کرنے سے، اس کی طرف دل لگانے اور اپنی حرکات و سکنات میں اس کی جانب توجہ مبذول کرنے سے، اور اس بندگی کی تابعداری کو ثابت

کر کے جو انسان کے شایان شان ہے تاکہ اسے ان بندوں کے  
مانند ضمانت مل جائے جن کے بارے میں اللہ عز وجل نے  
فرمایا ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنٌ﴾ [الجبر: ۳۲].  
ترجمہ: میرے بندوں پر تھے کوئی غلبہ نہیں۔

یہ ایسی نسبت ہے جو بندے کو شیطان سے الگ کر دیتی ہے،  
اور اس کا حصول رب العالمین کی بندگی کا مقام حاصل کرنے، اور  
قلب کو اخلاص عمل کے ساتھ مربوط کرنے، اور داعیٰ یقین کا سبب  
ہے، اخلاص اور بندگی جب دل میں پلا دی جاتی ہے تو ایسا شخص اللہ  
کے مقرب بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ عز وجل کا استثناء  
﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ﴾ [الجبر: ۳۰].

ترجمہ: سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے ہیں۔ اس  
کو شامل ہوتا ہے۔

جس نے رحمن کی بندگی اور اس کی طاعت کو ثابت نہ کیا تو گویا

وہ شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَا تَعْبُدُو الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ترجمہ: اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ [یس: ۶۰]. شیطان کی عبادت سے محفوظ نہیں رہ سکتا مگر وہ شخص جس نے خالص اللہ عز و جل کی بندگی کی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا إله إلا اللہ کی تصدیق کی اور اپنے قول میں اخلاص پیدا کیا اور اپنا قول اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ [کلمۃ الْ خلاص (ص ۳۷) ابن رجب حنبلي رحمہ اللہ].

## ☆ پھیسوں قلعہ: صراط مستقیم کی اتباع ہے ☆

اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

ترجمہ: اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سواس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ را ہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔

اللہ کا راستہ اور اس کا سیدھا طریقہ وہی ہے جس پر رسول اللہ ﷺ اور اس کے صحابہ تھے اس قول کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ قول

ہے: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل جح: ۲۷]

ترجمہ: یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ [آل جح: ۲۷]

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشوری: ۵۲].

ترجمہ: بیشک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ [الشوری: ۵۲].

جس شخص نے اپنے قول و عمل کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ کی

پیروی کی تو وہی اللہ عزوجل کے سیدھے راستہ پر گامزن ہے، اور

اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان

کے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے، اور جس نے اس کی مخالفت کی خواہ قول میں یا عمل میں تو وہ بدعتی اور شیطان کا راستہ اپنانے والا ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت، مغفرت اور احسان کا وعدہ فرمایا ہے۔ [ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی] "ذم الوسوس (ص ۳۶-۳۸)"، دیکھئے۔

jabrرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے اس طرح اپنے سامنے ایک خط کھینچا، اور ایک خط دائیں جانب کھینچا، اور ایک خط باعیں جانب کھینچا اور فرمایا "ہذہ سبل الشیطان" "یہ شیطان کے راستے ہیں" آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ درمیانی لکیر پر رکھا، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ ترجمہ: اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سواں راہ پر چلو اور

دوسری را ہوں پرمت چلو کہ وہ را ہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔ [الأنعام: ۱۵۳]۔ [اس روایت کو ابن ابی عاصم نے (السنہ: ۱۶) میں نقل کیا ہے اور محدث البانی رحمہ اللہ نے (ظلال الجنة: ص: ۱۲) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔]

اگر تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے اندر شرم و حیاء کی رقم باقی ہے تو اپنے نفس کے لئے انصاف کا راستہ اختیار کر، اس ایک راستے کی اتباع کر کے جس پر اس امت کے سلف اور اس کے ائمہ قائم ہیں، اور صحابہ اور تابعین، چاروں مجتہدین اور تمام محدثین میں سے جن کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔

اور تو ان راستوں کی اتباع نہ کر جو عرصہ دراز سے دین میں ایجاد کئے گئے ہیں ورنہ تجھے اللہ عز و جل کے سید ہے راستہ اور اس کی درست راہ سے الگ کر دیں گے۔

اور اے میرے بھائی! اس وحیت کے قبول کرنے میں اس اللہ سے ڈر جو جزا کے دن کا مالک ہے، شاید وہ تجھے کامیابی سے نواز دے، اور تیری حالت درست کر دے اس دن کہ جس میں لوگ سارے جہان کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

اور اگر تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا اسلام میں بجز نام کے اور دین میں سوانعے ایک علامت کے کوئی حصہ نہیں تو معاملہ تیرے سپرد ہے، اور اس کا و بال بھی تیرے اوپر ہوگا، ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ [الدین الخالص (۲۸۹/۳)].

### ☆ چھبیسوال قلعہ: گھر کی حفاظت ☆

(۱) گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَيْسَرَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ

اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَيِّتَ . وَإِذَا لَمْ  
يَذْكُرِ اللَّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَيِّتَ وَالْعَشَاءَ [رواه  
مسلم (۲۰۱۸)] .

جابر رضي الله عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اپنے داخل ہونے، نیز کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: تمہارے لئے رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے، نہ رات کے کھانے کا، اور اگر داخل ہوتے وقت اللہ عز وجل کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی، اور جب کھاتے وقت اللہ عز وجل کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے نیز رات کے کھانے کا ٹھکانہ پالیا“ [مسلم (۲۰۱۸)].

(۲) بیوی بچوں کو سلام کرنا:

انس رضي الله عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے پیارے بیٹے! جب تم اپنے گھر والوں کے پاس آؤ تو سلام کر لیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب بنے گا۔“ [ترمذی (۲۶۸۹) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۲۱۷۱) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) گھروں کو اطاعت اور بندگی سے پر کرنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَجْعَلُوا إِيُّوبَ تَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ“ [رواه مسلم (۷۸۰)].

”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔“

نبی ﷺ کا فرمان: ”لَا تَجْعَلُوا إِيُّوبَ تَكُمْ مَقَابِرَ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کو اللہ کے ذکر، نفلی نمازیں اور قرآن کریم کی تلاوت

سے خالی نہ رکھو، کیونکہ گھروں کو جب خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ قبرستان کے مانند ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ قبریں عمل کی جگہ نہیں ہیں، وہ اجری ہوئی، ویران، اور تاریک گلڈ ہے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے نور سے منور کر دیا جو اسے دنیوی زندگی میں حاصل تھا۔

اس حدیث میں گھروں کی توجہ کا ذکر خصوصاً مسلمانوں کے گھروں کی طرف توجہ دینے کا احساس دلا یا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ عزوجل کے ذکر، تلاوت قرآن، نوافل اور کثرت سے اللہ کے ذکر کے ذریعہ آباد کیا جائے، بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نوافل جن کے لئے جماعت مشروع نہیں ہے وہ سب گھر میں ادا کی جائیں، البتہ فرائض کی ادائیگی مساجد میں ہوگی، اور ایسا گھروں کو آباد کرنے کے لئے ہے کیونکہ جب تو اسے اللہ عزوجل کے ذکر سے آباد کرے گا تو اس سے شیاطین دور ہو جائیں گے، اور

گھر کی عورتیں، بچے اور اس میں رہنے والوں کی نشوونما اللہ عزوجل کی طاعت پر ہوگی، اور یہ سارے گھر خیر کے مدرسون میں تبدیل ہو جائیں گے، جن سے مسلمان موحد سنہ فراغت حاصل کریں گے۔

لیکن جب یہ سارے گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے تو اس کے باشندے جہالت اور غفلت کی زندگی بسر کریں گے اور ان کی حالت مردؤں جیسی ہوگی، اور تمہارا کیا خیال ہے جب گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں، اور شر کے وسائل مثلاً فحش فلمیں مہیا ہوں، اور ایسے آلات خرید کئے جائیں جن سے ساری دنیا کے ٹیلی ویزین چینل یعنی جو کچھ اس میں فتنہ و فساد، فحش، دیوانگی، کفر والحاد، اور عظیم برائیاں ہیں ان سب کا استقبال کر سکیں، جب یہ ساری چیزیں اس شیطانی آلات کے ذریعہ جسے صاحب منزل خود لگاتا ہے گھر کے اندر داخل ہوں گی تو ان گھروں کی کیا حالت ہوگی؟؟ یقیناً یہ شیطانی گھر بن جائیں گے نہ کہ قبرستان فقط، بلکہ شیطانی اڑے بن جائیں

گے۔ اللہ کی پناہ۔ پھر اس سے بدترین اولاد اور عورتیں نکلیں گی جن کے اندر غیرت کا فقدان، عدم حیاء، برائی سے محبت، اور جو کچھ انھوں نے ان نشریات میں برا بیاں، اخلاقی بگاڑ، معاملاتی فساد دیکھا اس کے نفاذ پر حرص کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، اور عنقریب جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں اور جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں اسے عملی جامہ پہننا کمیں گے، اور یہ ان کے اخلاق اور ان کی عفت و پاکدا منی پر براہ راست اثر انداز ہوں گی، اور یہ نماز میں سستی و کامیلی کریں گے، بلکہ اس کی وجہ سے بالکل نیغمہ نماز ترک کر دیں گے۔

میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو اس خبیث آلہ کے شکار ہو گئے ہیں کہ اللہ سے ڈرو؛ اسے اپنے گھروں سے باہر نکال پھینکو، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ：“اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور تمہیں گھروں کی طرف توجہ دینے کا حکم صادر فرمایا: بایں طور کہ تم اسے اللہ عز و جل کی طاعت کے ذریعہ آباد کرو۔” [اعمالۃ]

المستفید بشرح کتاب التوحید (۱/۳۱۲-۳۱۵)۔

(۲) ابلیس کی آواز سے گھر کو پاک و صاف رکھنا:

عقلمند قاری کے لئے مناسب ہے کہ وہ مندرجہ ذیل احادیث و آثار میں غور و فکر سے کام لے:

۱- عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے میرا ہاتھ تھاما تو میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے گیا اس حال میں کہ وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، تو رسول ﷺ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا یہاں تک کہ ان کی روح نفس عضری سے پرواز کر گئی، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے انہیں گود سے الگ رکھ دیا اور آپ رونے لگے، تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ رور ہے ہیں جب کہ آپ رونے سے منع کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّمَا أَنْهَا عَنِ الْبُكَاءِ وَلَكِنَّ نَهْيَتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ:

صَوْتٍ عِنْدَ نَعْمَةٍ لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ  
عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطُمٍ وُجُوهٍ، وَشَقٌّ جُهُوبٍ...“

”میں نے رونے سے منع نہیں کیا لیکن میں نے دو حمق و فاجر آواز  
سے منع کیا ہے، ایک گانے کے وقت کی آواز یعنی لہو و لعب اور  
شیطان کی بانسری سے، اور دوسرا مصیبت کے وقت کی آواز یعنی  
چہرہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنے سے“ [ترمذی (۱۰۰۵) اور البانی  
رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی (۸۰۳) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔]

۲- انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:  
”صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ  
وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ“

”دو قسم کی آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں: خوشی کے وقت  
بانسری اور مصیبت کے وقت چیننا،“ [بزار (۷۹۵)-کشف  
الآستر]، اور محدث البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع (۳۸۰۱) میں

اسے حسن قرار دیا ہے]۔

۳- ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَيْكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحِرَمَ وَالْحَرَبَرُوَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ...“

”ضرور بالضرور میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جوزنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے“ [بخاری نے تعلیقاً صیغہ جزم کے ساتھ (۵۵۹۰) میں روایت کیا ہے اور ابو داود نے (۲۰۳۹) میں موصولاً روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابی داود (۳۹۰۷) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

۴- ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّحْمَرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوْبَةَ“ ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر شراب، جو اور ڈھول کو حرام قرار

دیا ہے،” سفیان کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بذیمہ سے کوبہ کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کوبہ ڈھول کو کہتے ہیں ۔  
[ابوداؤد (۳۶۹۶) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود

(۳۱۲۳) میں اسے صحیح قرار دیا ہے]۔

۵- ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے مندرجہ ذیل آیت کے بارے میں پوچھا گیا: ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثٌ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾  
”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں،“ تو انھوں نے کہا:

”هُوَ الْغِنَاءُ، وَالَّذِي لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ“

”اس سے مراد گانا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود، نہیں، اور یہی چیز تین بار دہراتے رہے،“ [حاکم (۲۱/۲) اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے ان کی

موافق تکی ہے]۔

۶- امام شعیؑ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”إِنَّ الْغِنَاءَ يُبْتَلُ النَّفَاقَ فِي  
الْقُلُوبِ كَمَا يُبْتَلُ الْمَاءُ الزَّرْعَ، وَإِنَّ الدُّكَرَ يُبْتَلُ إِلِيمَانَ فِي  
الْقُلُوبِ كَمَا يُبْتَلُ الْمَاءُ الزَّرْعَ“

” بلاشبہ گانا بجا نا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح  
پانی کھیت اگاتا ہے، اور ذکر اسی طرح ایمان: کو اگاتا ہے جس طرح  
پانی کھیت کو اگاتا ہے“۔ [امام مرزوی نے ”تعظیم قدر الصلاۃ“  
(۲۹۱) میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”تحريم آلات  
الطلب“ (ص ۱۳) میں اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے]۔

۷- امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لَا نَدْخُلُ وَلِيْمَةً فِيهَا  
طَبْلٌ وَلَا مِعَزَافٌ“

”ہم ایسے ولیمہ میں شرکیں نہیں ہوتے جس میں ڈھول اور گانا بجا  
ہو،“ [ابو الحسن الحرسی نے اسے ”الفوائد المنشقة“، (۱/۳) میں صحیح

سن� سے نقل کیا ہے جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”آداب الزفاف“، (ص ۱۲۵-۱۲۶) طبع دار ابن حزم، بیروت میں ذکر کیا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”الْغَنَاءُ يُبْنِي النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ“  
 ”گناہ میں نفاق پیدا کرتا ہے“ [بیہقی نے ” السنن الکبریٰ“ (۲۲۳/۱۰) میں صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔]

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کے اتا لیق کو لکھا کہ:  
 سب سے پہلا ادب جو تیرے پاس سے سیکھیں وہ لہو و لعب سے  
 نفرت ہو جس کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا انجام  
 رحمٰن کی نار اصلگی ہے کیونکہ ثقہ اہل علم سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ  
 گانے بجانے کے آلات کی آواز، اور گانے سننا اور اس میں سر نکالنا  
 دل میں نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی سبزہ کو اگاتا ہے۔ [آجری

نے ”سیرت عمر بن عبدالعزیز“ (۶۲) میں سندِ حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے]

اہم فائدہ: مملکتہ سعودیہ عربیہ کے علماء کبار کی جانب سے ٹیلیفون کے موسیقی نغمات کی حرمت کے سلسلہ میں فتویٰ صادر ہوا ہے۔

### ۵۔ گھنٹیوں سے گھر کو پاک کرنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْجَرْسُ مَنْزَ امِيرُ الشَّيْطَانِ“

”گھنٹی شیطان کی بانسری ہے“ [رواہ مسلم (۲۱۱۳)].

جب یہ بات ہے کہ شیاطین گھنٹی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو فرشتے اس آدمی کی معیت سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ گھنٹی ہوتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً بَيْتًا“

فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرْسٌ ”

”فرشته اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ کتا اور گھنٹی ہو،“ [رواه مسلم (۲۱۳)] .

عاشرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرْسٌ ”

”جس گھر میں گھنٹی ہوتی ہے اس میں فرشته داخل نہیں ہوتے،“ [ابوداؤد (۲۲۳۱) اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داود (۳۵۶۰) میں اسے صحیح قرار دیا ہے] .

یاد رکھیں کہ تنبیہ کرنے والی گھڑی کی وہ گھنٹی جو نیند سے بیدار کرتی ہے، ٹیلیفون اور گھروں کی گھنٹی (یعنی وہ گھنٹی جو گھروں میں اجازت طلب کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے) ان مذکورہ احادیث سے خارج ہیں کیونکہ یہ آواز اور شکل و صورت میں ناقوس کے مشابہ نہیں ہوتی ہیں۔

یہ بعض ان بڑی گھڑیوں کی گھنٹیوں کے برخلاف ہیں جو دیواروں پر لٹکائی جاتی ہیں کیونکہ اس کی آواز ناقوس کی آواز سے مکمل مشابہت رکھتی ہے لہذا کسی مسلم کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کی گھڑیاں اپنے گھر میں داخل کرے، خاص طور پر بعض وہ گھڑیاں جس میں گھنٹی بجھنے سے پہلے موسیقی جیسی آوازنگلتی ہے، مثال کے طور لندن کی اس گھڑی کی آواز جو اس کے ریڈیو اسٹیشن سے سنائی جاتی ہے، اور جو بگ بن کے نام سے معروف ہے۔

[جلباب المرأة المسلمة (ص ۱۶۹)].

(۶) تصویریوں اور بجسموں سے گھر کو پاک کرنا:

مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو تصاویر اور بجسموں سے پاک رکھے سوائے اس کے جس کے بارے میں استثناء وارد ہے، مثلاً بچیوں کے کھلونے اور وہ تصویریں جن میں جان نہ ہو جیسے درخت، نہریں، کھیتیاں، دھات، پتھروں غیرہ، اور جو

ناگزیر ہو جیسے کارڈ اور حکومتی کاغذات کی تصویر۔ اور ایسا اس لئے ہے کیونکہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں اور مجسمے ہوں، اور جب فرشتے گھر سے نکل جاتے ہیں تو شیاطین اس میں ٹھکانہ بنالیتے ہیں۔

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ" [صُورَةٌ = صورہ]

"جس گھر میں کتا یا تصویر ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے"

[بخاری (۳۳۲۲)، مسلم (۲۰۶)]

### فقہ الحدیث:

(۱) تصویریوں کا حرام ہونا کیونکہ یہ فرشتوں کے عدم دخول کا سبب ہے۔

(۲) حرمت ان تمام تصویریوں کو بھی شامل ہے جو مجسم ہیں اور نہ جن

کا کوئی سایہ ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کپڑے پر نقش و نگار کے طور پر ہوں یا کاغذ پر لکھ کر بنائے گئے ہوں، یا فوٹو گرافی مشین کی تصویر ہو کیونکہ یہ سب فوٹو اور تصویر میں داخل ہیں۔

[تفصیل کے لئے کتاب ”اعانۃ المستفید“ (۲۲۲-۲۶۳) کا مطالعہ کریں۔]

### خاتمه

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے اور درود وسلام ہو آخربی نبی اور رسول (محمد ﷺ) پر۔

ہمیں یہ جانتا چاہئے کہ ہم جہادِ عظیم سے گزر رہے ہیں اور ہم سدا ایک ایسی لڑائی سے دو چار رہتے ہیں جو ہمیشہ ہتھیار سے مسلح رہتا ہے کیونکہ شیطان اس جنگ سے اکتا ہٹ محسوس نہیں کرتا جس کا اعلان اس نے اس وقت سے کر رکھا ہے جس وقت کہ اسے ملعون قرار دیا گیا اور اسے دھنکار دیا گیا ہے، پس وہ مصرا ہے اور اپنے طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہے .. اور اسی وجہ سے جہاد مختلف شکلوں اور مختلف مجالات میں قیامت تک جاری رہے گا۔

اور بلاشبہ مومن اس معركہ سے غافل ہے اور نہ ہی اس سے اپنا ہاتھ کھینچ سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے شیطان سے اس کے وعدہ کو جھٹلا کر، اس کی حکوم عدوی، اور اس کے منع کردہ چیزوں کا ارتکاب

کر کے اس سے جہاد کر رہا ہے، کیونکہ شیطان (فضول) تمباوں کا وعدہ کرتا ہے اور جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے محتاجی سے ڈراتا ہے، اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، تقوی، ہدایت، پاک دامنی، صبر، اور جملہ ایمانی اخلاقیات سے روکتا ہے۔ [زاد المعاد (۳/۸)]

اور سب سے بڑا غافل وہ شخص ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا دشمن عزم مصمم، ہٹ اور سابقہ حکمکی کے ساتھ اس کے گھات میں ہے اس کے باوجود یہ اس سے نہیں بچتا ہے، پھر مزید برآں کہ اس ضدی دشمن کی تابعداری بھی کرتا ہے !!

اور یہ بات یاد رکھو کہ تمام لوگوں کے ساتھ شیطان کی عام دشمنی ہے، اور اے عبادت اور علم میں جانفشاری کرنے والے تمہارے ساتھ اس کی خاص دشمنی ہے، اور یقیناً تیرا معاملہ اس کے لئے بہت ہی اہم ہے، اور تیرے خلاف اس کے بہت سے مددگار ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر تیرے خلاف خود تیر افس اور تیری خواہشات

ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب، راہیں اور ایسے دروازے ہیں جن سے تو غافل ہے، تو مشغول ہے پر شیطان فارغ ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو اسے بھول جاتا ہے پر وہ تجھے نہیں بھولتا، اور تیرے خلاف خود تیرا نفس شیطان کا معاون و مددوہار ہے، لہذا اس سے آگاہ اور متنبہ رہو، اس لئے کہ یہ ہلاکت، تباہی اور بر بادی کی جگہوں پر پہنچتا ہے، یا یہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نجات مل جائے۔

شیطان کے فتنوں کی کثرت، اور اس کے دلوں سے چھٹے رہنے کی وجہ سے سلامتی شاذ و نادر ہے۔ [المشتقی انفیس (ص) ۵۵]۔  
 اے اللہ! میں تیرابندہ ہوں، اور یہ میری پیشانی تیرے سامنے ہے، اور تیری مدد کے بغیر اس دشمن سے خلاصی ممکن نہیں، اور بلاشبہ میں مغلوب ہوں پس تو میری مدد فرم۔

صفحات	عنوان
۱	تقديم دا عبدالرزاق بن عبد المحسن البدري
۳	مقدمہ
۷	تمہید: شیطان کی برائیوں سے آگاہی
۱۳	کنجوں اور بخیل
۱۷	وسوسہ اندازی
۱۹	شیطان چور ہے
۲۰	مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالنا
۲۲	شیطان کی قربت اور دوستی
۲۵	ہر حال میں انسان کے.....
۲۶	نومولود بچے کی کوکھ میں کچوکے لگانا
۲۷	خوفناک خواب دکھانا
۲۹	خیر کی چیزوں کا بھلوا +

صفحات

عنوان

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ۳۰   | نیت، قول، اور عمل میں خرابی پیدا کرنا |
| ۳۱   | راہ حق اور راہ نجات پر شیطان کا پھرہ  |
| ۳۶   | جمائی لیتے وقت شیطان کا منہ .....     |
| ۳۷   | سر پر گردہ لگانا                      |
| ۳۹   | شیطان کا انسان کے جسم .....           |
| ۴۰   | شیطان کا انسان کے نہضنے .....         |
| ۴۳   | چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا     |
| <b>☆شیطان مردوں سے بچنے کا محفوظ قلعہ☆</b> |                                       |
| ۵۰   | پہلا قلعہ: اخلاص                      |
| ۵۳   | دوسرا قلعہ: قرآن کریم کی تلاوت        |
| ۵۴   | تیسرا قلعہ: آیت الکرسی                |
| ۵۵   | چوتھا قلعہ: سورہ بقرہ کی آخری .....   |

صفحات	عنوان
۵۵	پانچواں قلعہ: معاذ تین پڑھنا
۵۷	(۱) صحیح و شام
۵۷	(۲) سوتے وقت
۵۸	(۳) ہر نماز کے بعد
۵۹	(۴) بیماری کے وقت
۵۹	چھٹا قلعہ: سو بار لا الہ الا اللہ کہنا
۶۰	ساتواں قلعہ: کثرت سے اللہ.....
۶۱	آٹھواں قلعہ: سجدہ تلاوت
۶۱	نواں قلعہ: بسم اللہ کہنا
۶۲	پہلا مقام: جب سواری کا جانور.....
۶۳	دوسرा مقام: گھر سے نکلتے وقت
۶۳	تیسرا مقام: جماع کے وقت

صفحات

عنوان

۶۳	چو تھا مقام: بیت الخلا.....
۶۵	پا نچو اس مقام: کھانا کھاتے وقت
۶۵	دسوال قلعہ: تقدیر کو تسلیم کرنا
۶۶	گیارہواں قلعہ: قیام اللیل
۶۷	بارہواں قلعہ: استغفارہ.....
۶۷	(۱) قرآن کریم کی تلاوت کے وقت:
۶۷	(۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت:
۶۸	(۳) بیت الخلا میں داخل .....
۶۹	(۴) غصے کے وقت:
۷۰	(۵) قرأت سے پہلے اور.....
۷۰	(۶) شیطان کی طرف سے وسوسوں.....
۷۲	(۷) موت کے وقت شیطان کے.....

عنوان	صفحات
(۸) کتنے کے بھونکنے اور گدھے.....	۷۳
(۹) نیند میں گھبراہٹ کے وقت	۷۴
(۱۰) نیند کی حالت میں جب.....	۷۵
(۱۱) نظر اور حسد کے وقت	۷۵
تیر ہواں قلعہ: غصہ پی جانا	۷۷
چود ہواں قلعہ: صفوں کی درستگی	۷۸
پندر ہواں قلعہ: سجدہ سہو کرنا	۸۱
سول ہواں قلعہ: جماعت کا لزوم	۸۲
پہلی شکل: جماعت سے نماز پڑھنا	۸۳
دوسری شکل: سفر کی جماعت	۸۵
تیسری شکل: مجلس میں اکھٹا ہونا	۸۵
چوتھی شکل: اکھٹے ہو کر کھانا کھانا	۸۶

عنوان	صفحات
ستر ہواں قلعہ: تشهید میں .....	۸۸
اٹھار ہواں قلعہ: سترہ رکھ .....	۸۸
انیسوں قلعہ: اللہ عز و جل سے دعا کرنا	۸۹
بیسوں قلعہ: شیطان کی مخالفت کرنا	۹۱
(۱) جلد بازی	۹۱
(۲) دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنا	۹۲
(۳) کھانا پینا	۹۲
(۴) لینا دینا	۹۳
(۵) تکبر کرنا	۹۳
تواضع کی دو فرمیں ہیں	۹۵
(۶) شیطان قیلو لہ نہیں کرتا	۹۵
(۷) شیطان صرف ایک پیر میں .....	۹۶

عنوان	صفحات
(۸) اسراف اور فضول خرچی	۹۶
اکیسوال قلعہ: توہہ اور استغفار کرنا	۹۷
بائیسوال قلعہ ☆ اچھی بات	۹۹
تیکسوال قلعہ: اللہ عز و جل کو.....	۱۰۰
چوبیسوال قلعہ: بندگی .....	۱۰۵
پچیسوال قلعہ: صراط مستقیم .....	۱۰۷
چھبیسوال قلعہ: گھر کی حفاظت	۱۱۱
(۱) گھر میں داخل ہوتے وقت .....	۱۱۱
(۲) بیوی بچوں کو سلام کرنا	۱۱۲
(۳) گھروں کو اطاعت اور .....	۱۱۳
(۴) ابلیس کی آواز سے گھر کو پاک کرنا	۱۱۷
(۵) گھنٹیوں سے گھر کو پاک کرنا	۱۲۳

## صفحات

عنوان

۱۲۵ (۶) تصویریوں اور جسموں سے .....

۱۲۸ خاتمه

۱۳۱ فہرست

### گزارش ☆

بیمارے اسلامی بھائیو اور بہنو! اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر استفادہ کر لیا ہے، تو پھر ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اسے اپنے عزیز واقارب کو ہدیہ دید تھے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں؛ ”کیونکہ ہدایت کی راہ وکھانے والے کو عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی“۔ (سلم)، اور اگر آپ ہماری دیگر مطبوعات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اسلامک سنتر سُلی - ریاض کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، جو مخزن ۱۶ اپاراسکانِ جزیرہ کے شرق میں شارع ہارون رشید اور ابو عبیدہ بن جراح کے سکنل پر واقع ہے۔

یا آپ ہمیں درج ذیل ایڈرلیس پر خط بھیج سکتے ہیں، ال شاء اللہ  
ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں گے۔

المملكة العربية السعودية

ص ب : ۱۴۱۹      الریاض : ۱۱۴۳۱

آپ کے اسلامی بھائی

منظومین اسلامک سنتر سُلی - ریاض



# تذکیر الائش

## بعداوجة الشیطان

تألیف

عبدالهادی بن حسن وھبی

ترجمة

قسم الجاليات بالمركز

الطبعة الأولى

اردو 0301230

المؤلف: العلامة في الأذن عواد والآسر شناور وفروعه في الحالات المثلثة  
ص.ب/ ١٤١٩ الرياض / ١١٤٢١ هاتف / ٢٤١٠٦١٥ تاسوخ / ٢٤١٤٤٨٨  
البريد الإلكتروني: sulay@w.cn